

قرآن میں نظامِ زکوٰۃ

از

معارف القرآن

محنتفہ

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

جس میں

زکوٰۃ کی حقیقت، تاریخ، اہمیت و فرغیت، موالیٰ زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ،
مقدار زکوٰۃ، نظامِ زکوٰۃ، مضارع زکوٰۃ، عالمین صدقہ مولفۃ القلوب
اور فی سبیل اللہ کی بحث - تملیک کی شرط جن کاموں میں رکوٰۃ نہیں
صرف ہو سکتی ان کا بیان

اور اس کے بعد عام مسائل زکوٰۃ۔ از تالیف مفتی لانا محمد شفیع صنایفصل، بیج ہیں

ناشر

ادارۃ المعارف پچوک سبیلہ - کراچی

قرآن پری نظام زکوٰۃ
از مولانا مشتی محمد شفیع صاحب مدظلہ
احکام زکوٰۃ
از مولانا محمد رشیع صاحب مدرس دارالعلوم کراچی

طبع اول — فرمودی سلسلہ

صفحات ۱۱۵

قیمت ۱/۵۔

دیکھ سعیدی قرآن کراچی

ناشر

ادارۃ المعارف کراچی ۵

ملینے کا بیٹے

دارالاشعیت مقابل مولوی مسافرخانہ کراچی

و

ادارۃ اسلامیات نمبر ۱۹ انارکلی لاہور

فهرست مصاہل

قرآن میں نظام زکوٰۃ و احکام زکوٰۃ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳	زکوٰۃ سال بیس ایک مرتبہ لی جائے گی	۲۴	قرآن میں نظام زکوٰۃ
۳۴	زکوٰۃ کی مقدار	۵	دینیا چھ
۳۵	اموال باطنی کی زکوٰۃ	۸	ر تعارف معارف القرآن
۳۹	مصارف صدقات	۹	زکوٰۃ کے متعلق دو آیتوں کی تفسیر
۴۱	داریں اور انجمنوں کے سفیر عالمیں صدقہ کے حکم میں نہیں	۱۳	زکوٰۃ کی دلخونیا بی اور اسکے مصرف پر خرچ کرنا اسلامی حکومت کی فرمان داری ہے
۴۲	ایک اور سوال عبادت پر اجربت	۱۴	زکوٰۃ کا حکم مکی زندگی میں مقدار زکوٰۃ کا تعین
۴۴	عہد رسالت میں صدقات کو دوسری	۱۵	زکوٰۃ کی تفصیلات کا بیان یا یہ رسول سے
۴۶	مدات سے جدا رکھتے کا انتہام	۱۶	زکوٰۃ حکومت کا ٹیکنیس نہیں بلکہ عبادت ہے
۴۷	لفظانی سبیل اللہ میں ایک عام	۱۷	نظام زکوٰۃ
۵۶	مخالطہ اور اس کا جواب	۱۹	زکوٰۃ کس مال میں واجب، اور کس میں نہیں
۵۹	مسئلہ تبلیغیک	۲۰	کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہے
۶۲	ادائی زکوٰۃ کے متعلق بعض آئم مسائل	۲۲	

عنوان

صفحہ

عنوان

صفحہ

۹۱	سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دیدی	۶۵	حصہ دوم۔ احکام زکوٰۃ
۹۲	تواس کا حکم	۶۶	از مولوی محمد رفیع صاحب
۹۳	سال مکمل ہونے کے بعد مال ختم کی	۶۷	تصدیق و تقریظ
۹۴	یا کم ہو جانے کا حکم	۶۸	اصطلاحات و تعریفات
۹۵	زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ اور اس کا حکم	۶۹	زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت
۹۶	زکوٰۃ کی نسبت	۷۰	تاریخ زکوٰۃ
۹۷	کسی اور شخص کے ذریعہ زکوٰۃ ادا کرنا	۷۱	زکوٰۃ کے معاملہ میں غفلت
۹۸	سے لے زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز ہے	۷۲	زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا عذاب
۹۹	میں مساجد اسلامی عدارس انجمنوں اور ک	۷۳	زکوٰۃ کس قسم کے مال پر فرض ہے
۱۰۰	جماعتیں کو زکوٰۃ دینے کے احکام	۷۴	شرائط زکوٰۃ
۱۰۱	۷۵	سوئے چاندی کی زکوٰۃ	
۱۰۲	۷۶	نقد ردپے کی زکوٰۃ	
۱۰۳	۷۷	مال تجارت کی زکوٰۃ	
۱۰۴	۷۸	مقر و فرض یہ زکوٰۃ کب فرض ہے } کب نہیں }	
۱۰۵	۷۹	قرض خواہ پر زکوٰۃ کب فرض ہے } کب نہیں }	
۱۰۶	۸۰		
۱۰۷	۸۱		
۱۰۸	۸۲		
۱۰۹	۸۳		
۱۱۰	۸۴		
۱۱۱	۸۵		
۱۱۲	۸۶		
۱۱۳	۸۷		
۱۱۴	۸۸		
۱۱۵	۸۹		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه ورضاه نصرا ولهم وصلوا الله
تعالى على خير خلفه وصفوة رسليه سيدنا محمد وآلته وصحبه .

سباس سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں نظام زکوٰۃ یا قالوں
زکوٰۃ کا نام جس مستقل کتاب اور مفصل مباحثت کو چاہتا ہے۔ زیرنظر کتاب
اُس انداز کی نہیں۔ کیونکہ یہ اس موضع پر کوئی مستقل تصنیف نہیں بلکہ
معارف القرآن کے نام سے جو میرادرس قرآن ہفتہ دار جمیعہ کے روز روپی
پاکستان سے نشر ہوتا ہے اُس کے چھ درس ہیں جو سورہ آیہ کروں آیتوں
کے متعلق نشر ہوتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کی تفسیر پر زکوٰۃ کے متعلق
اصولی مباحثت خود قرآن کریم کے الفاظ میں ضروری حد تک مکمل آگئے ہیں
اور بہت سی ایسی الجھنوں کا بھی اس میں واضح حل آگیا جو اکثر
تعلیم یافتہ حضرات کو مطالعہ قرآن سے پیش آتی ہیں بلکہ بعض علماء کو بھی
ان میں شبہات ہو جاتی ہیں۔ جبکہ یہ درس روپی پاکستان سے شروع
تو بعض دوستوں نے اس کی مستقل اشاعت کی فرمائش کی اس لئے ان
کو نظر ثانی اور کہیں کہیں ترجمہ کی ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ اس مجموعہ کو
اسلام کا مکمل نظام زکوٰۃ یا فانوں زکوٰۃ تو نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن اس

موضوع کے اہم مباحثت کا ایک اچھا خاصہ مجموعہ ضرور ہے جو حضرات اسلامی نظام زکوٰۃ کو سمجھنا چاہیں یا اس موضوع پر کچھ لکھنا چاہیں اُن کے لئے اس میں انتشار اللہ تعالیٰ کا فرضی ملے گی۔

اور ایک حیثیت سے پسندید مستقل تصنیف کے اس کی افادیت زیادہ ہے کہ مستقل تصنیف تو مصنف کی فہم (صواب درید) کا نتیجہ ہوتی ہے اور اس میں ایسا نہیں بلکہ الفاظ قرآن کریم کے مانع جس قدر مسائل و فوائد حاصل ہوئے صرف وہی لکھے گئے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں سورہ توبہ کی ہیں ایک میں مصارف زکوٰۃ کا بیان اور دوسرا میں انتظام زکوٰۃ اسلامی حکومت کے فرائض میں داخل ہونے کا ذکر ہے اور اس کے ضمن میں زکوٰۃ کی حقیقت اور تاریخ بھی آجاتی ہے اس لئے اس دوسری آیت کی تفسیر کو پہلے لکھ کر مصارف زکوٰۃ کی آیت کو بعد میں لیا گیا ہے۔

جب احباب کے تقاضا سے اس مجموعہ کی اشاعت کا ارادہ ہوا۔ توبیہ خیال آیا کہ یہ مجموعہ الیٰ دو آیتوں کی تفسیر ہے جن میں زکوٰۃ کے جوںی مبای آئے ہیں۔ اہل علم اور تعلیم یا فتنہ حضرات کے لئے نظری اور فکری اعتبار سے توبیہ بہت مفید ہے۔ لیکن عمل کرنے والوں کو جن جزئیات و مسائل کی عام ملکور پر ضرورت پڑتی ہے وہ سب اس میں مذکور ہیں۔ اُن کے قائدہ کے لئے مسائل زکوٰۃ کا ایک مجموعہ اس کے ساتھ شامل کرنا ضروری معلوم ہوا۔ اپنے ضعف اور ہجوم مشاغل کے سبب یہ کام برخورد ایڈلوی محمد فتح سلمہ مدرس دارالعلوم کراچی کے سپرد کیا۔ عزیز موصوف نے ما شار اللہ خپڑو نے

میں بہت مناسب انداز سے زکوٰۃ کے احکام وسائل کا یہ تجویعہ تیار کر دیا۔
ازادہ اللہ تعالیٰ علماء عمل متفقیاً اس کو احضر نے پورا دیکھ کر جا بجا اصل حجۃ تم
کے بعد اس کتاب کا جزو بنانا مفید سمجھا۔ اس طرح یہ کتاب زکوٰۃ کے اصولی اور
فرعی تمام ضروری مباحث اور مسائل پر حاوی ہو گئی تو قرآن میں قالون زکوٰۃ
کے نام سے شارح کی جاتی ہے۔ وَاللّٰهُ الْمُوْفَقُ وَالْمُعْلِمُ وَيَنْزُلُ فِيْقَهَ فِيْ

کل شیئی استعین

ربنا نقیل منا اندی افت السیمیح العلیم

اس کتاب کی اشاعت کے وقت یہ پیش آیا کہ آج
ایک لطیفہ ماه شعبان ۱۴۳۲ھ کی آنیں تاریخ ہے جس میں
احضر کی عمر کا بھاپ، قمری اوپر وال سال شروع ہوا ہا ہے۔ عمر کی اڑستہ
منزہیں کس طرح غفلت اپنے ہوئے اور با نیماندہ لمحات
عمر کی فکر نے ایک عجیب عالم سامنے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ گزر شستہ کی مغفرت
اور آمدہ اپنی مردمیات کی توفیق عطا فرمادیا۔ وہ ہوا فیضان و علیہ التکلیف۔

بندلا محمد سلطنه علیہ السلام

۲۱ شعبان ۱۴۳۲ھ

تعارف

معارف القرآن

یہ وہ تفسیر ہے جو تقریباً دس سال سے ہفتہ دار جمیع کے روز ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتی ہے۔ اس میں خاص ایسے مضامین کا انتخاب ہوتا ہے جو عام فہم بھی ہوں اور عام مسلمانوں کی ضرورت بھی اُس سے متصل ہو۔ اس وقت گیارہ صدی پارہ تک محمد اللہ یہ تفسیر پہنچ چکی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا انقاصل ہے کہ اس کو کتابی صورت میں جلد شائع کیا جائے۔ مگر اس کے لئے اول تومصنف کی نظر ثانی اور انتخاب مضامین کی وجہ سے جو آیات چھوٹ گئی ہیں ان کی تکمیل ضرور ہے پھر اس کے طباعت کے مصافت کا انتظام بھی آسان نہیں۔ اللہ کے نام پر نظر ثانی کا سلسلہ تو شروع کر دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کہ منظور ہے تو یہ سب مراحل آسان ہو جائیں گے اس وقت مباحثہ نکوہ کے منتقل اس میں سے صرف دو آیتوں کی تفسیر شائع کی جاتی ہے۔

زکوٰۃ کے متعلق اور ایکوں کی تفصیل

خذ من اموالہ صد فلہ تظہر ھد و تنگیہم بہا
و صلی علیہم ط ان صلوٰتی سکن لہم ط و انہ سبیع علمہم
سورة توبہ۔ ۱۰۳

ترجمہ - آپ ان کے نامولی میں سے صرف تم لے یجیہ جس کے ذریعہ
آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے اور ان کے لئے دعا کیجیے بلاشبہ آپ کی
دعائیں کے لئے موصوب الطینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں خوبی
جائستے ہیں۔

اس آیت میں مسلمانوں کی زکوٰۃ کو باقاعدہ اسلامی حکومت کی
تجوییل میں دینے کا قانون نازل ہوا ہے۔

زکوٰۃ ایک ایسا مالی فریضہ اور عبادت ہے جو پیچلے تمام انہیارا اور
آن کی شدیدتوں میں بھی ایک دینی فریضہ کی جیلیت سے جاری رہاتے
نصاب زکوٰۃ۔ مقدار زکوٰۃ۔ مختصر زکوٰۃ کی صورتیں مختلف رہی ہیں مگر
اللہ کی راہ میں اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کرنے کی قدر مشترک ہیں یہیں یہیں ہے۔
شریعت اسلام میں بھی صحیح ہے کہ نماز کی مانند سماں میں زکوٰۃ
بھی فرض ہوتی ہے۔ پورے قرآن میں ایموا العملۃ کی ساتھ آتوا الزکوٰۃ
کا جوڑ بھی بہت ایسا ہے خصوصاً اُن سورتوں میں جو قبیل از هجرت مکہ مکرمہ
میں نازل ہوئی ان میں بھی نماز کی زکوٰۃ کا حکم موجود ہے سورہ میں

جونز دل قرآن کی بارکل ابتدائی سورتوں میں سے اس میں بھی اقیمہ الصلوٰۃ و آنفال زکوٰۃ موجود ہے۔

البیتہ زکوٰۃ کے تفصیلی احکام نازل ہونے سے قبل غالباً قالوں زکوٰۃ یہ تھا کہ انسان کے پاس جو کچھ اپنی ضروریات سے نفع جائے وہ سب صدقہ کردے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت (۲۱۹) میں ہے کہ صحابہ کرام نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا اور کس قدر خرچ کیا کریں تو جواب میں قل العفو فرمایا گیا یعنی جو کچھ تمہاری ضرورتوں سے نفع ہے وہ سب صدقہ کر دیا کرو۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ زکوٰۃ کے تفصیلی احکام نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کی یہی عادت تھی کہ جو کچھ مکمل تے اس میں اپنی ضروریات سے جو کچھ بھی نفع رہتا دہ سب صدقہ کر دیتے تھے۔ اور ہر شخص اپنی اپنی زکوٰۃ خود ادا کرتا تھا۔ سورہ توبہ کی آیت مذکورہ نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ و صول کرنا امد اس کے مصرف پر خرچ کرنا اسلامی حکومت کافر لیفہ قرار دیا گیا۔

بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کے نزدیک کا ایک خاص واقعہ لکھا ہے۔

مگر جمہور مفسرین نے صحیح اس کو قرار دیا ہے کہ یہ ایک مستقل حکم ہے جس کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے اموال کی زکوٰۃ و صدقات نفع کرنے اور بچہ قرآن کے بتلاتے ہوئے مصارف میں خرج کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفسیر قرطبی احکام القرآن جصاص۔ منظہری وغیرہ میں

اسی کو ترجیح دی گئی ہے۔ اور قرآنی اور جو صاص نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر اس آیت کا شان نزول وہ خاص واقعہ ہی قرار دیا جائے جس کا ذکر درپر آیا ہے تو پھر بھی اصول فرقہ کی رو سے یہ حکم عام ہی رہے گا۔ اور قیامت تک کے مسلمانوں پر حادی ہو گا۔ کیونکہ قرآن کریم کے بیشتر احکام خاص خاص واقعات میں نازل ہوئے مگر ان کا دائرہ عمل کسی کے تزوییب اس خاص واقعہ تک محدود نہیں ہوتا بلکہ جب تک کوئی ولیل شخصیص کی نہ ہو چکم تمام مسلمانوں کے لئے عام اور شامل ہی قرار دیا جاتا ہے۔

یہاں تک کہ پوری امت محمدیہ کا اس پر بھیاتفاق ہے کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب خاص بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ مگر یہ حکم نہ آپ کی سماں تھے شخصیص ہے اور نہ آپ کے زمانہ کے ساتھ لا محدود بلکہ ہر وہ شخص جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام مسلمانوں کا امیر ہو گا۔ اس حکم کا مخاطب اور مامور ہو گا اس کے فرمانص میں داخل ہو گا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ و صدقات کے وصول کرنے اور منصرف پر خراج کرنے کا انتظام کریں۔

صدریق اکبر خاں کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں جو والیں زکوٰۃ پر جہاد کرنے کا واقعہ ہیش آیا اس میں بھی نہ کوئی نہ دینی و اسلامی کچھ لوڑہ لوگ تھے جو کھلکھلا اسلام سے باشی اور مرتند ہوئے تھے اور کچھ لیے ہے لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے۔ مگر زکوٰۃ نہ دینے کا یہ بہانہ کرتے تھے کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم متذکر کوئی زکوٰۃ و صدقات وصول

کرنے کا حکم آپ کی حیات تک تھا، مم نے اس کی تعمیل کی آپ کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا حق ہے کہ ہم نہ کوئی صداقت طلب کریں اور شروع شرع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان پر جہاد کرنے سے اسی لئے تردید پیش آیا کہ مسلمان ہیں ایک آیت کی آڑ لے کر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا جائے جو عام مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پورے جز مادر عزم کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر لے گا، تم اُس پر جہاد کریں گے۔

اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو لوگ حکم زکوٰۃ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوص قرار دینے اور آپ کے بعد اس کے ساقط ہو جانے کے قائل ہوئے وہ مکمل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوص بھی کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی آئی ہے اقْرَمُ الصُّنُوْةِ لَدْلُوْكُ الشَّهِيْسِ جس میں اقامت صلوٰۃ کے مخاطب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر یہ طرح آیت نماز کا حکم پوری امت کے لئے عام ہے اور اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوص ہونے کی غلط تاویل تاویل کرنے والوں کو کفر سے نہیں بچا سکتی اسی طرح آیت خذ من اموالہم کی یہ تاویل اُن کو کفر و اندار سے نہیں بچائے گی۔ فاروق عظیم نے اپنے تردذکی وجہ ایک حدیث سے پیش کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اُس وقت تک جہاد کرتا رہوں جسیسا تک وہ لا اللہ الا اللہ (کہیں) اور حب وہ اس کلمہ کے

قابل ہو جائیں تو اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے۔ مگر یہ کہ حق کے موافق ان کی جان و مال میں کوئی تھفہ کرنا پڑے تو وہ اس کے منانی نہیں۔

حضرت صدیق اکبر فراز نے اس حدیث کو سن کر فرمایا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الٰہ بحقہما کی قید کا لگا کریے بتلا دیا ہے کہ کسی حق کی بنیاد پر ان کے جان و مال میں تصرف کیا جا سکتا ہے اور جس طرح نماز حق جسمانی ہے اسی طرح زکوٰۃ حق مالی ہے اس لئے ہم اس حق کی مخالفت کی وجہ سے جہاد کرتے ہیں۔ اور ایک رد ایت میں اس حدیث کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قابل نہ ہو جائیں اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے پابند نہ ہو جائیں اس میں صدیق اکبر فراز کے قول کی تائید موجود ہے۔ اس پر فاروق کو اطمینان ہو گیا اور با جماعت صحابہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا گیا۔

ادام قرطی اور ابن الصریح نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا یہ استدلال کہ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا عہدہ مبارک کے لئے مخصوص تھی۔ استدلال باطل اور گمراہی اور دین کے ساتھ کھیل رینیکا مراد ف ہے۔

زکوٰۃ کی وصیہ لیجاتی اور اسکے مصروف پر پڑھ کر رہا اسلامی

علمودرت کی ذمہ داری ہے

خلاء صدر یہ سہی کہ اتنا آیت کو زکوٰۃ و صدقات کے متعلق ایک مستقل

آیت قرار دیا جائے یا سالقہ آیتوں کی طرح غزوہ بیوک میں شرکت نہ کرنے
والے مخلص مسلمانوں کے واقعہ سے تعلق کیا جائے بہردو صوت اس
آیت میں بالتفاق آئمہ تفسیر اخضارت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر اسلامی خلیفہ و
امیر کے لئے یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے اور اس
کے مصرف پر خرچ کرنے کا انظام کرنے یہ اُس کا فرضیہ منصبی ہے۔ امام قطی
نے اپنی تفسیر میں اور ابن عربی نے احکام القرآن میں اس کی تصریح فرمائی
ہے اور امام ابو بکر حبیبی کے احکام القرآن میں اس آیت کا مفہوم یہی
قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کے صدقات و زکوٰۃ و خیر کے لینے کا حق مسلمانوں
کے امام و امیر کو ہے۔

زکوٰۃ کا حکم ہی زندگی میں

اس سلسہ کے واقعات دردایات میں خور کرنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہو چکی تھی کیونکہ سورہ مزمل
جو قرآن کریم کی بالکل ابتدائی سورتوں میں ہے ہے اس میں زکوٰۃ کا حکم موجود
ہے۔ لیکن اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی ہر سلحان بطور خود کرتا تھا۔ ہجرت کے
بعد مدینی زندگی کے ابتدائی دو رہیں بھی یہ سورت بولہ ہی جاری رہی۔ ہر شخص
اپنے اپنے زکوٰۃ و صدقات کے ادا کرنے کا خود ہی ذمہ دار تھا۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی کافالوں نہ تھا۔ اور شاید اسی وجہ
واقعہ بیوک کے پیغمبر حضرات کے صدقات قبول کرنے سے اخضارت

نے انکار فرمایا۔ اور یہی واقعہ جو شہر میں پیش آیا۔ اس قانون کے نازل ہونے کا سبب بن گیا کہ زکوٰۃ و حمد قاتل کو وصول کرنے اور ان کے مصرف پر خرچ کرنے کی اصل ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہے۔ عہد رسالت میں یہ ذمہ داری خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء و اهراام اسلام پر ڈالی گئی۔

یہ آیت احکام زکوٰۃ کے عالمہ میں بالکل بھل ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس قسم کے اموال سے زکوٰۃ لی جائے نہیں کہ کس قدر مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور نہ یہ کس مال میں۔ یہ کس قدر حصہ مال کا بطور زکوٰۃ لیا جائے۔

مسئلہ ارز کوٰۃ کا تعیین

البته قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اتنا بتلایا گیا ہے کہ مقدار زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تعین فرمادی ہے یہ نہیں کہ جس کا جتنا بھی چاہئے دیجئے۔ آیت یہ ہے وَفِي اموالِ الْهُدُوْحِ حَقٌ مَعْلُومٌ الْمَسَائلُ وَالْمُحْرِّمُونَ جس میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ زکوٰۃ فقراء و مساکین کا حق ہے۔ ان پر کوئی اختیاری احسان نہیں ہے۔ وہ صرف یہ کہ اس حق کی مقدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک تعین ہے۔ کسی کو اس میں پڑھانے کھلائے زکوٰۃ کا حق نہیں۔ مگر کوہ مقدار تعین کیا ہے اس کا بیان اس آیت میں نہیں آیا۔

زکوٰۃ کی تفصیلات کا بیان تعلیمات رسول سے

بہی طرح قرآن کریم نے نماز کے متعلق چند اصولی ہدایتیں دیکھیں اس کی ادائیگی کی ساری تفصیلات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ فرمایا اور آپؐ نے پذیر لعجہ وحی معلوم کر کے اپنے قول و فعل سے اس کی پوری تفصیلات شتمجھائیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معاملہ کی تمام تفصیلات بھی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمائی گئیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ زکوٰۃ کے نصاب اور مقادیر زکوٰۃ کو زبانی بیان کر دینا کافی نہ سمجھا بلکہ تحریر کر کر صحابہ کرام کے حوالہ فرمایا اور یہی تحریریں پوری امت کے لئے زکوٰۃ کا قانون بنیں۔

اور پھر نظام زکوٰۃ کو جباری فرمایا صدقہ و صول کرنے کے لئے عاملین صدقہ کا لفڑ فرمایا جو تحریر کردہ ہدایات کے مطابق زکوٰۃ و صدقات و صول کر کے بیت المال میں جمع کرتے اور بیت المال سے ان مصارف پر خرچ کیا جاتا تھا جو اسی سورہ توبہ کی ایک آیت میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اور اس رسالہ میں اس آیت کے بعد اس کا بیان آئے گا۔

زکوٰۃ کی تمام تفصیلات کے بیان کو لتحقیق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ فرمایا لیکن زکوٰۃ کی اصل حقیقت اور اس کے اصول کو خود قرآنؐ میں واضح فرمادیا ہے جیسا کہ ابھی آیت حق معلوم کے حوالہ سے آپؐ نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب اور مقادیر عنده اللہ رضیں متعین

ہیں اوس میں کسی زمانہ اور کسی حال میں کسی کو کمی میشی کا سبق مانصل نہیں اور زکوٰۃ کی اصل حقیقت کو اس آبیت میں پوری طرح واضح فرمادیا کہ زکوٰۃ کوئی حاکمانہ نیکس نہیں۔ بیسے عام حکومتیں رعایا سے دصول کیا کرتی ہیں بلکہ یہ ایک عبادت اور صدقہ ہے جو انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لئے جاری کیا گیا ہے۔

رَكُونْهُ حَكْلُهُ شَرْكَهُ سَكَالُهُ حَلَّهُ لَكَمْ حَلَّهُ لَكَمْ

قرآن کریم نے آبیت میں زکوٰۃ پر مخفف میں امور العین کے بعد جواز شاد فرمایا صدقہ نظر ہر ہدایہ و تذکرہ ہے جو یہا اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقہ قاتم کوئی حکمہ مرد کا نیکس نہیں۔ جو عام حکومیں انتظام حکومتی چلا سئے کے لئے دصول کیا کرتی ہے۔ بلکہ اس کا منقصہ خود اصحاب اموال کو گناہوں سے پاک صاف کرنا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ زکوٰۃ و صدقہ قاتم و دصول کرنے سے درحقیقتی دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ خود و صاحب مال کا ہے کہ اس کے ذریعہ وہ گناہوں سے اور مال کی حریض و شکست سے بے بارہ بے دلائل افلاتی و باریں کی جائیں۔ دوسرے فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ توہن کے اس فوجیق عنصر کی پروردش ہوتی ہے۔ جو خود اپنی ضروریات مہیا کرنے میں مجبور یا قاصر ہے جسے ہم بھی بیچتے ہیں۔ مجبور یا قاصر اور مساویں وغیرہ وغیرہ میں اور عام قدرزاد و مساویں وغیرہ وغیرہ

لیکن قرآن حکیم نے لفظ تظہر ہدایہ کا میں صرف پہلا فاءٰ مددہ بیان کرنے پر اقتدار کر کے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ و صدقات کا اصل مقصد پہلا ہی فاءٰ مددہ ہے دوسرا فاءٰ مددہ اس سے ضمنی غیر پڑھا میں ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اگر بالفرض کسی جگہ یا کسی وقت کوئی یہیم بیوہ فقیر مسکین موجود نہ ہو جبکہ اصحاب اموال سے زکوٰۃ کا حکم سا قطع نہ ہوگا۔ اس ضمون کی تائید بھلی اہتوں کی زکوٰۃ و صدقات کے طریقہ سے پوری وضاحت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تصریحات احادیث کے مقابلہ بھلی اہتوں میں جو مال اللہ کے لئے مکالا جاتا تھا اس کا استعمال کسی کے لئے جائز نہ تھا بلکہ دستور یہ تھا کہ اُس کو کسی علیحدہ جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمانی بھلی آکر اُس کو جلا دیتی بھی اپنی علامت تھی اس بات کی کہ یہ صدقۃ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیا اور جہاں یہ آسمانی آگ نہ آتی تو صدقۃ کے غیر مقبول ہونے کی علامت صحیحی جاتی پھر اس مخصوص مال کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا۔

اس سے واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ و صدقات کی اصل مشروطیت کسی کی حاجت روانہ کے لئے نہیں بلکہ وہ ایک مال حق اور عبادت ہے جیسے نماز روزہ جسمانی عبادت ہیں۔ یہ مالی عبادت ہے البتہ یہ امت مرحومہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ مال جو فی سبیل اللہ نکالا گیا ہے انہیں اُت کے فقراء و مسکین یعنی اُس کا استعمال جائز کر دیا گیا۔ جیسا کہ مسلم کی حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ مجھے

دوسرے انبیاء پر جو خصوصیات حاصل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ ہمیں کے لئے اموال غنیمت حلال کرد یہ گئے۔ (اس سے یہی امتوں میں تماں اموال غنیمت آسائی آگ سے جلائے جائے کا دستور تھا)۔ یہی معاملہ دوسرے صدقات واجبہ زکوٰۃ، عشر و خیرہ کا ہے۔

اب مختار طور پر یہ بتلایا گاتا ہے کہ اس حکم قرآن کی تعمیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی اور اس کا کیا نظام بنایا۔

نظام زکوٰۃ

اس معاملہ میں کچھ اصولی ہدایات تو قرآن کریم کی مختلف آیات میں موجود ہیں۔ باقی سب تفصیلات بوجی الی ولعلیمات ربانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ان کے مطابق نظام زکوٰۃ جاری فرمایا۔ بیوکہ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کلی طور پر یہ بتلایا ہے کہ احکام دین کے معاملہ میں جو کچھ آپ نہ رکھتے ہیں وہ سب بذریعہ وحی معلوم کر کے فرماتے ہیں آیت کریمہ و ماینطق عن من انہوں وحی بوجی کا

یہ مطلب ہے شریعت اسلام کے بیشتر احکام میں یہی طریقہ رہا ہے کہ اصولی ہدایات قرآن میں صراحتہ آئی اور باقی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہر دکی کئی وہ تفصیلات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فتنے میں بلکہ بذریعہ وحی حق تعالیٰ کی طرف سیرے حاصل کر کے بیان رکھی اس اعتبار سے حدیث رسول کی تفسیر و ترجیح کہا جاتا ہے۔

زکوٰۃ کس مال علی واجب ہے کس مال نہیں

اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مسلمانوں کے ہر لیکے اور مال پر زکوٰۃ عام نہیں فرمائی بلکہ چند قسم اموال کو زکوٰۃ کے لئے مخصوص فرمایا۔ مثلاً سونا۔ چاندی۔ اموال تجارت۔ زرعی زمین کی پیداوار اور معادن و ریگاڑ یعنی وہ چیزیں جو زمین کی مختلف کالوں سے نکلتی ہیں یا کوئی قدیم و فینہ اور خزانہ جو زمین سے برآمد ہو۔ مویشی۔ ان میں اکثر اقسام کے متعلق تو خود قرآن کریم نے تصریح فرمادی ہے مثلاً سونے چاندی کے پارے میں اسی سورہ توبہ کی آیت ۳۵ جو پہلے گزر چکی ہے اس میں ارشاد ہے الذین یکنزوں اللذھب والفضة والخواہ سونے چاندی

* فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَتَرْهِمْ بَعْذَايْبَ الْيٰهِمْ - (توبہ)

اس آیت میں سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہونا اور اُس کے نہ دینے کی صورت میں جہنم کا عذاب حصر طور پر مذکور ہے اور چونکہ سونے اور چاندی کے الفاظ عام وارد ہوئے ہیں اس لئے حکم یہ ہے کہ سونا چاندی خواہ کسی صورت میں ہو زکوٰۃ اُس پر واجب ہو گئی۔ خواہ سونے چاندی کے مکرے ہوں یا درستہم و دیناراً و گنی اور روپیہ ہوں یا زیور کی صورت میں ہوں کیونکہ الفاظ آیت سے ان میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اور اموال تجارت اور زرعی زمین سے پیدا ہوئے دالی چیزوں اور کالوں اور خزانوں سے حاصل ہونے والے اموال کے متعلق

صورہ بقرہ کی ایک ہی آیت میں زکوٰۃ کا فرض ہوتا بیان فرمادیا گیا ہے۔
وَهَا آیت یہ ہے۔ يَا اِيَّاهَا الَّذِينَ آتَيْتُمْ وَآنفَقُوا مِنْ طِبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمَا اخْرَجْتُمْ لَكُمْ مِنَ الدُّرْضِ (بقرہ ۲۶) اسی لئے
ایمان والو خرچ کروانی پاکیزہ کمائی میں سے۔ اور اس چیز میں سے جو
ہم نے نکالی ہے تمہارے لئے زین سے۔

امام قطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں لفظ کسب (کمائی)
آیا ہے اور لسب سمجھتے ہیں اس چیز کو جو محنت مشقت سے حاصل ہو۔
اس لئے اس لفظ کسب میں وہ مال بھی داخل ہے جو کسی نے اپنی محنت
مزدوری کے ذریعہ حاصل کیا ہے اور اموال تجارت بھی جن کو محنت مشقت
کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے اور وہ مال بھی جو میراث میں ملا ہو کیونکہ
وہ اگرچہ دارث کی بلاد واسطہ کمائی نہیں ہے مگر اس کے مورث کی کمائی
ہے جو ایک حیثیت سے اسی کی کمائی ہی چاہ سکتی ہے۔

اس آیت میں سوئے چاند کی کو ایک ساختہ ذکر کر لیا ہے اس طرف
بھی اشارہ پایا گیا کہ یہ دوئی چیزوں میں ایک حیثیت سے ایک ہی ہے۔ اگر
ان کا نصیب الگ الگ پورا نہ ہو مگر دو نوں سے بیل کرنے کا نصیب پورا ہو جائے
تب بھی زکوٰۃ واحبہ ہوگی۔ (کتاب صحر، حجہ بد الفقہاء۔ قاطبہ) اور
وہ چیزوں جو زمین سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس میں زرعی زمین اور
بانیات کی پیداوار بھی داخل ہے اور معماں (یعنی کالوں سے نکلنے والی
سب دعاویں اور مختلف چیزوں بھی) اور وہ دفعہ و خزانہ بھی جو کسی زمین

ستے پر آمد ہو۔

اور زرعی زمین اور باغات اور درختوں کی پیداوار کے متعلق ایک
منہ مستقل آیت بھی سورہ النعام میں گذر چکی ہے کہ آتو احقد لوم حصار کے
یعنی ادا کرو جسی کھینچتی اور درختوں کے چھلوٹ کا اُن کے کاشنے کے دن سے
قرطبی نے حضرت النس بن مانک ابن عباس اور طاووس حسن بصری
رضی اللہ عنہم سے فضل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو زرعی
زمینوں وغیرہ کی پیداوار پر عائد ہے۔

اور موشیٰ پر زکوٰۃ کا حکم ہبیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
مستقل صحیفہ میں لکھا اک حضرت عمر و بن جزدم وغیرہ صحابہ کرام کو
سپرد فرمادیا تھا۔ (۱۱۳)

گئے مال پر زکوٰۃ واجب ہے

چھرجن اموال پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے اُن میں بھی ایسا نہیں
کیا کہ ہر قلیل و کثیر پر زکوٰۃ فرضی کر دی جانے بلکہ اُن کے لئے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مددگار شفر شرمن جس کو فقرہ اد کی اصطلاح
میں نصاب کہا چاہتا ہے اس نے گئے مال ہر تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔

(مثلاً چاندی کے لئے دو سو درہم نصاب مقرر فرمایا جس کا وزن
ہمارے مردجہ اوزان کے اعتبار سے باون تو لے ۶ ماشہ ۵ رتنی ہوتا ہے
اور سو نے کے لئے بیس شقال کا نصاب متعین فرمایا جو ہمارے موجودہ

وزن کے اعتبار سے ہے تو لہ، مانشہ ہوتا ہے اور اصول تجارت کا نصیب بھی جو نکمہ قیمت ہی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اس لئے اُس کا نصیب بھی یہی سو نے چاندی کا نصیب ہو گا۔

زکوٰۃ سال بھر میں ایک ہر ہفتہ کی جائے گی

نظام زکوٰۃ کا دوسرا بیانی فاعلہ رسول رَحْمَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے یہ بیان فرمایا کہ جب تک کسی مال پر سال پولانہ گزیر جائے اُس وقت تک اُس پر زکوٰۃ عامدہ نہیں ہوگی بھر سال کے ختم پر جتنا مال اُس وقت ملکہ ہیں موجود ہوگا اس کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ (ترمذی)

زکوٰۃ کی مقدار

مقدار زکوٰۃ کس مال میں کس حسابت کی جائے اس کے متعلق اتنی بات تو قرآن کریم نے خود واضح فرمادی کہ اُس کا تعین حق تعالیٰ نے خود فرمادیا ہے اُس میں کسی کی رائے کو دھلی نہیں پھر اُس تعین کا بیان اور نشرت کر جو رسول کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے فرمائی۔ اُس سے سہل و مہم ہوا کہ مقدار زکوٰۃ کا تعین عین عقل و حکمت کے مطابق (۱) اصول پر ہو لے کہ جس مال کی تخلیق برآ راست دستی قدرست ہے تو اسی سے اُس کی پیداوار میں انسان کا کوئی دخل نہیں اس میں مقدار زکوٰۃ سب سے زیادہ رکھی گئی اور رکھنے والے کی پیداوار میں انسان کیا دخل۔ نہ مگر بہت کم اُڑیں

مقدار کم کر دی گئی پھر جس کی پیداوار میں جتنا چتنا انسان کا داخلِ محنت
بڑھتی گئی اُتاہی زکوٰۃ کی مقدار کم ہوتی گئی۔ مثلاً معادن (کالوں) سے
جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں ان کی پیداوار میں انسانی عمل کا کوئی واسطہ نہیں
ہے وہ بحث ڈالنا پہنچنا اس کے بڑھانے کے لئے اس کو آبیاری کی خواست
پیش آتی ہے اسی طرح جو قدرِ کم درفینہ یا خزانہ کسی زبان سے برآمد
ہو جاتے اس کے پیدا کرنے میں انسانی عمل کا کیا داخل ہے ان دونوں
چیزوں میں مقدارِ زکوٰۃ سب سے زیادہ یعنی کل کا پانچواں حصہ رکھا
گیا۔ ہمی پانچواں حصہ مال غنیمت میں بیت المال کا حق فرار یا الیا کیونکہ
مال غنیمت کی تخلیق و پیداوار میں اس کے حاصل کرنے والوں کا کوئی
دخل نہیں۔

اس کے بعد دوسرا درجہ اُس زمین کی زرعی پیداوار کا ہے جس کی
پیداوار صرف بارش کے پانی سے ہے۔ کنوں یا نہر وغیرہ کا پانی اُس کو
نہیں دیا جاتا۔ اس میں انسان کو صرف اتنا کرنا پڑتا ہے کہ زمین کو ہل
وغیرہ چلا کر زرخ کر دے اور اُس پر ایک جو پیروں کے امن بنا بحث ڈال دے
باقی اُس بیج سے پودا لٹکانا اور اس کا پروردش پاناس پر قدرتی پانی
ہوتا ہے۔ تواہ وہ نہیں کے اندر سے چڑپ کرے یا اپر کر کا بارش ہے
حاصل کرے۔ اس لئے اُس کی مقدارِ زکوٰۃ معادن و خزانہ کی زکوٰۃ
آدھی یعنی دسوائی حصہ کر دیا گیا۔ اور جس نہیں کی آبیاری کسی کشویں یا
نہر وغیرہ سے کر جائیے اس میں انسان کی محنت اور خرچ اور پردازہ بڑھے

گیا اس لئے اس کی زکوٰۃ پہلی قسم کی زمین سے بھی آدمی یعنی بیسوائی حصہ کر دیا
گیا۔ زمین کے علاوہ نقوٹ نیپور سال تجارت وغیرہ کے کسب میں انسانی
محنت، و محل کو اس سے بھی زیادہ دخل سے اس لئے اس کی زکوٰۃ دوسری
قسم کی زمین کی زکوٰۃ سے بھی آدمی یعنی چال بیسوائی حصہ کر دیا گیا۔
مودشتی کی زکوٰۃ یہیں بھی اسی طرح کی آہماںیوں کے پیش نظر مستقل
ضابط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی المدعا عنہ
کو بخواہ کر دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بھی یہ ضابطہ بخوبی
وجوہ دکھا۔ خانقاہی راست دین اور اہم اسلام نے ہمیشہ اسی کو قالوں زکوٰۃ
قرار دے کر اس پر عمل کیا ہے۔

اموال یا مال کی زکوٰۃ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہیت کی طرف سے زکوٰۃ وصول
کرنے کا انتظام صرف ان اموال میں کیا جو فقہاء کی اصطلاح میں اموال
ظاہرہ کہلاتے ہیں یعنی جو اموال کا معاملہ بالکل کھلاہ دا اور دارفع ہے
چیزیں معادن۔ ذریعی زمینیں۔ مودشتی کر ان کو کوئی چیز پا کر کھروں اور صندوقوں
میں محفوظ رہیں کر سکتا بلکہ اُن کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت ہی
کی انتظامی مشایری کرتی ہے۔ ایسے اموال کی زکوٰۃ کا قالوں یہ بنایا گیا
کہ ان کی زکوٰۃ اصحاب اموال بردا راست خود نہ ادا کریں بلکہ عمال حکمت
کے حوالہ کریں اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اُس نے خود ادا کر دی ہے تو

اس پر اعتماد نہ کیا جائے وہ بارہ وصول کی جائے۔ کیونکہ ان اموال کی زکوٰۃ خود ادا کرنے کا اس کو حق نہ تھا۔

باقی اموال باطنہ نقدر سونا۔ چاندی۔ نرپوراست وغیرہ ان کے متعلق حکومت کو شرعی قانون سے اس کا مجاز نہیں کیا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کے محفوظ سامانوں کی تلاشی لیں۔ اور ان کی زکوٰۃ وصول کریں بلکہ ایسے اموال کی زکوٰۃ خود اصحاب اموال ہی کے حوالہ کی گئی کہ یہ بطور خود ادا کریں۔ خواہ بیت المال کو دیدیں یا براہ راست فقراء میں تقسیم کر دیں اور جو بیت المال کو دیں اُس میں بھی ان سے یہ محاسبہ نہ ہوتا تھا کہ کل کتنا مال تھا اُس کی کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے یہ کس قدر دے لے ہے ہیں۔ صحابہ کرام کا عام معمول یہی رہا کہ وہ اپنے ایسے اموال کی زکوٰۃ بھی بیت المال ہی میں خود مجمع کر دیتے تھے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر مکوئی پابندی نہ تھی۔

عہد رسالت میں اموال تجارت بھی زیادہ تر ایسے ہی تھے کہ گھروں یاد کا نہیں میں محفوظ و مخزون تھے اس لئے ان کی زکوٰۃ بھی عمال حکومت کے ذریعہ وصول نہیں کی جاتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی کے زمانے میں جب اموال تجارت کا حمل و نقل مختلف شہروں اور بازاروں میں ہوتے لگا اور وہ بھی موعشی کی اموال کی طرح اموال ظاہرہ کی مثل ہو گئے تو آپ نے شہر کے مختلف علاقوں پر عمال حکومت کی چوکیاں بیٹھا دیں۔ جو وہاں سے گزرنے والے مسلمان تاجر و ملکی اسے زکوٰۃ وصول کریں اور غیر مسلموں سے

اُن کے مقررہ صالحیت کے مطابق ڈیکس وصول کر لیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے زمانے میں اموال تجارت کی زکوٰۃ و صول کرنے کیلئے شہر کے راستوں پر چوکیاں قائم فرمائیں۔ اور جہاں صلحاء تا بعین نے حضرت فاروق اعظم اور عمر بن عبد العزیز کے اس عمل کو پسند فرمایا کسی نے اس پر احتیاج نہیں کیا۔ یہ سب تفصیل امام ابو یکریم راعز کے احکام القرآن میں مذکور ہے۔

یہ ہے وہ نظام زکوٰۃ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ کے حکم کی تعمیل کئے تھے قائم فرمایا اور مصالح فی زکوٰۃ کا مستقل بیان اسی سورت کی ایک مستقل آیت میں آیا۔ جسے شدید بحث میں لکھا جائے گا۔
 اب آیت مذکورہ کے باقی الفاظ نے تفسیر سنبھل دیں۔ ارشاد فرمایا
 صدقۃ نطفہ رہد و تزکیہ دینا اسی میں صدقۃ کا نامہ دو
 لفظوں میں بیان فرمایا ہے ایک تلمیز و سر دست نہ کیتے تلمیز کے معنی پاک
 کرنے کے مشہور و مصروف میں۔ تزکیہ اس لمحے میں ہے جو استعمال ہوتا ہے۔
 اور کسی چیز میں رہنا یعنی بڑھو توڑی کے لئے بھی یہ لامعاً ہے۔ اس چکہ
 اگر پہلے معنی لئے جائیں تو وہ تلمیز کی تاکید تھی جانتے گی۔ اور دوسرے
 معنی لئے جائیں تو یہ ہو جائیں گے کہ صدقۃ کی زریعت یہ لوگ اپنے
 گناہوں سے اور پرستی کے اخلاقی میں پاک بھی ہو جائیں گے اور ان کے
 اعمال و اخلاق میں برکت بھی ہوگی کہ خود رشی مانتے ہوئے اجز و ثواب
 کا سبب بن جائے گی۔ صدقۃ کے ذریعہ گناہوں کی ادائیت ہونا احادیث

صحیح میں وارد ہے حادیث میں ہے کہ صدقۃ اللہ تعالیٰ کے غصب کو اس طرح فرور کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو اور جب کوئی آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو کر کوئی عمل عبادت کا کرتا ہے تو اس کی عبادت کا ایک خاص اثر اور رنگ ہوتا ہے۔ یہی خاطر اثر اس کے اعمال کی برکت ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا وصل علیہم ان صلوٰۃ سکن لھم لفظ صلوٰۃ اصطلاحی نام کے معنی میں تو معروف ہے ہی اس کے دوسرے معنی دعا کرنے کے بھی آئندے ہیں وہی اس جگہ مراد ہے کہ آپ اُس کے لئے دعا کریں۔ کیونکہ آپ کی دعائیں کئے موجب الہیاناں و سکون ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی عادت اس آیت کے مطابق یہ ہو گئی تھی کہ صدقۃ زینت والوں کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بعد ہر امام و اپیرس کے لئے پسندیدہ حواری ہو گئی کہ صدقۃ دا کرنے والوں کے لئے دعا کیا کریں اسی آیت میں دعا کو لفظ صلوٰۃ ذکر کیا گیا ہے مگر بعد میں صلوٰۃ کا لفظ صرف انبیاء کے لئے استعمال ہونے لگا جس کے نام سے ساختہ صلوٰۃ و لسلام کے الفاظ دیکھنے سے جائیں اُس کو عرب میں بھی پار رسول کیجھا چاہتے ہیں اس لئے فقہاء و حجۃم اللہ نے فرمایا کہ اب تک کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے سوا اکسی کے لئے لفظ صلوٰۃ کے ساتھ دعا کرنا دار بہت ہیں۔ تاکہ انبیاء اور بھیرانبیاء میں امتیاز ہاتھ رہے۔ اس لئے صلوٰۃ کے علاوہ دوسرے کے الفاظ سے دعا کرنا چاہیے۔

بہتراللہ عزوجل جو رہ لیو یہ کی آیت (۱۳۰) کا بیان تھا جس میں زکوٰۃ

.....
.....

کے اصولی مسائل کا ذکر ہے انھیں اصولی مسائل میں ایک مسئلہ مدافع
زکوٰۃ کا بھی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کس کیلئے مصروف میں صرف
کئے جا سکتے ہیں اس کا بیان سورہ توبہ کی ایک دوسری آیت میں آیا ہے
هُنَّا رُحْمَةٌ مُّكَاهِلٌ فِي الْمُتَّقِيَّا
دوسری آیت :- سورہ توبہ رد کوچع ۸ - آیت ۶۰

النَّهَا النَّصْدُ قَادَتْ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْعُمَدِينَ
عَلَيْهَا وَا لَهُ لَقَذَةٌ قَلْوَبِيْجَهْرَ وَفِي الْأَنْقَابِ وَالْأَنْفَارِ دِيْنَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِ يَضْرَةٍ مِّنْ اللَّهِ طَوَّالَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ
ترجمہ :- صدقات تو صرف حق ہے خیر بیوں کا اور محنت بیوں کا اور جو
کارکن ان صدقات پر منغیں ہیں اور بن کر دل بھول کر ناسیبے اور عدم اموال کی
گردان چھڑائیں میں اور قرضداروں کے قریب ہیں اور بہراویں اور مسافروں
میں یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ جو سکھم دالے
بڑی حکمت والے ہیں ملے

اس سے یہی آیتوں میں صدقات کے پارسے یہی رسول، کریم
صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض منافقین کے اعتراض کا اور جواب کا ذکر تھا۔
جس میں منافقین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا کہ
آپ (معاذ اللہ) صدقات کی تفہیم میں انصاف نہیں کرتے جس کو چاہتے ہیں
اور جو چاہتے ہیں دیدیتے ہیں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے اسے اخلاق صدقہ کرنے والے کو منع کر دیا
کی اس عمل فحیم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ انسانی باغتہ دوستی فرما دی ہے

کو صدّقات کن لی گول کو دینے چاہئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم صدّقات میں اسی ارشادِ ربانی کی تعمیل فرماتے ہیں اپنی رائے سے کچھ نہیں کرتے۔

اس کی تصدیق اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ابو داؤد اورقطنی نے حضرت زباد بن حارث صدّاقی کی روایت سے نقل کی ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ ان کی ثزم کے مقابلہ کے لئے ایک شکر مسلمانوں کا روانہ فرماء ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ شکر بھیجیں میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ سب مطیع و فرمانبردار ہو کر آجائیں گے۔ بھپڑیں نے اپنی قوم کو خط لکھا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ یا = اخا صد امام طاعٰی تو صہ جس میں گویا ان کو یہ خطاب دیا گیا کہ یہ اپنی قوم کے بھپڑی اور مختندا ہیں میں نے عرض کیا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو ہدایت ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہیں ابھی مجلس میں حاضر تھا کہ ایک شخص آخر نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لئے حاضر ہوا آپ نے اس کو جواب دیا۔

صدّقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی یا غیر بھی کے بھی حوالہ نہیں کیا بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصروف متعین فرمادیے اگر تم ان آٹھ سے میں داخل ہو تو تم ایک میں کے سکتا ہوں۔ انتہی (تفسیر قرطبی ص ۱۶۸)

آیت کاشان نزول معلوم کرنے کے بعد آیت کی تفہیم اور شریعہ
سننے سے پہلے یہ سمجھ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے تمام مخلوقات انسان و حیوان
وغیرہ کو رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُزْقُهَا۔ اور ساختہ اپنی حکمت بالغہ سے ایسا نہیں کیا کہ
سب کو رزق میں برابر کر دیتے۔ غصی و فقیر کا فرق نہ رہتا اس میں انسان
کی اخلاقی تربیت اور نظام عالم سے متعلق سیکڑوں حکمتوں ہیں جن کی
تفصیل کا یہ موقع نہیں اس حکمت کے ماتحت کسی کو مالدار بنادیا کسی
کو غریب فقیر بچر مالداروں کے مال میں غریب فقیر کا حصہ لگادیا۔ ارشاد
فرمایا و فی أموالِ همِّ حَقٌ مَعْلُومٌ لِّ السَّائِلِ وَ الْمَحْرُومُ جس میں بتلوادیا
کہ مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے ایک معین مقدار کا حصہ فقراء
کے لئے رکھ دیا ہے جو ان فقراء کا حق ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا
کہ مالداروں کے مال سے جو حصہ قدر نکالنے کا حکم دیا گیا ہے یہ کوئی اُن کا
احسان نہیں بلکہ فقراء کا ایک حق ہے جس کی ادائیگی اُن کے ذمہ ضروری
ہے۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حق اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے یہ
نہیں کہ جس کا جو چاہے جب چاہے اُس میں کمی بیشی کر دے۔ اللہ تعالیٰ
نے اس معین حق کی مقدار میں بتلانے کا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیغمبر نے فرمایا اور اسی لئے آپ نے اس کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ صحابہ
کرام کو صرف زبانی بتلانا پڑے پر کفاریت نہیں فرمائی بلکہ اس معاملہ کے
متعلق مفصل فرمان بخدا اکر حضرت فاروق اعظم اور عمرو بن جنم کے سردار

فرملئے جس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ کے نصاب اور نصاب میں سے مقدار زکوٰۃ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے واسطے متعین کر کے بتلا دئے ہیں اس میں کسی زمانہ اور کسی ملک میں کسی کو کمی بیشی یا تغیر تبدل کا کوئی حق نہیں۔

صدقہ زکوٰۃ کی فرضیت صحیح یہ ہے کہ ادائیل اسلام ہی میں مکمل مکرمہ کے اندر نازل ہو چکی تھی جلیلیا کہ امام تقییہ ابن کثیر نے سورہ هز مل کی آیت فاقیمۃ الصلوٰۃ وَ اتوالزکاۃ سے استدلال فرمایا ہے کیونکہ یہ سورت بالکل ابتداء وحی کے زمانہ کی سورتوں میں ہے سے اس میں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی ہے۔ البته روایات حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء اسلام میں زکوٰۃ کے لئے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورتوں سے نجد ہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا نصابوں کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان بعد از ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوا ہے۔ اور محصر زکوٰۃ و صدقۃ کی وصولیابی کا نظام حکماء انداز کا تو فتح ملک کے بعد عمل میں آیا ہے۔ اس آیت میں باجماع صحابہ و تابعین اُسی صدقہ واجہہ کے مصارف کا بیان ہے جو نماز کی طرح مسلمانوں پر فرض ہے کیونکہ جو مصارف اس آیت میں متعین کرنے گئے ہیں وہ صدقات فرض ہی کے مصارف ہیں۔ نفلی صدقۃ میں روایات حدیث کی تصریحات کی بناء پر بہت وسعت ہے وہ ان آنکھ مصارف میں منحصر ہیں۔

اگرچہ اوپر کی آیات میں صدقات کا لفظ عام صدقات کے لئے استعمال ہوا ہے جسی میں واجب اور نفلی دلوں داخل ہیں۔ مگر ان آیت میں باجماع امت صدقات فرضی کے مصادر کا بیان آیا ہے۔ اور تفسیر قربی میں ہے کہ قرآن ہر جہاں کہیں لفظاً صدقۃ مطلق برداگھیا ہے اور کوئی فرمائے نفلی صدقۃ کا نہیں ہے تو وہاں صدقۃ فرضی مراد ہوتا ہے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح صدقات، فرض سے مصادر کو حق تعالیٰ نے خاص نظام کے ساتھ منظم فرمادیا ہے اور رسول کریم اللہ علیہ وسلم اُس کا اتباع کرنے میں اس طرح دوسرے صدقات کی تفہیم میں بھی آپ انھیں اوصاف کو مدار تقسیم قرار دیتے ہیں جو اس حکمہ حق تعالیٰ نے متعین فرمادیں ہیں انھیں اوصاف کے دائرہ میں رہ کر انہیں دوسری پر عمل فرماتے ہیں۔ مخالفین کا یہ شدید خلط ہے کہ آپ جس کو جزو چاہیں دیتے ہیں اس آیت کو لفظ انہیں سے شروع کیا گیا یہ لفظ حصر و انحصار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس شروع ہی کے کامنے پر بتلایا کہ صدقات کے جو مصارف آگے بیان ہو رہے ہیں تمام صدقات واجبہ صرف انھیں میں خروج ہوتے چاہیں ان کے علاوہ کسی دوسرے مصرف خیز میں صدقات واجبہ صرف نہیں ہو سکتے۔ جیسے جہاد کی تیاری یا بناء مساجد و مداراز یا دوسرے رفاه عام کے ادارے۔ یہ سب چیزیں بھی اگرچہ ضروری ہیں اور انہیں خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ مگر صدقات فرعی ہیں کی مقدار اپنے دلباں کر دی گئی ہیں اُن کو ان میں نہیں لگایا جاسکتا۔

آیت کا دوسرا الفاظ صدقہ قات صدقہ کی جمع ہے صدقہ لعنت میں
 اُس مال کے جز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے لئے خرچ کیا جائے۔ (قاموس)
 امام راغب نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ صدقہ کو صدقہ اس لئے کہتے
 ہیں کہ اُس کا دیتے والا کو یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے قول و فعل میں
 صادق ہوں اس کے خرچ کرنے کی کوئی غرض دینوںی نہیں بلکہ صرف
 اللہ کی رضا کے لئے خرچ کر رہا ہوں۔ اسی لئے جس صدقہ میں کوئی نام
 و نمود یا دینوںی غرض شامل ہو جائے قرآن کریم نے اُس کا عدم قرار
 دیا ہے۔ لفاظ صدقہ اپنی اصلی معنی کی رو سے عام ہے لفظی صدقہ کو بھی کہا جاتا
 ہے۔ فرض زکوٰۃ کو بھی لفظ کے لئے تو اس کا استعمال عام ہے ہی۔ فرض
 کے لئے بھی قرآن کریم میں بہت چکریہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے
 خذ من اموالہم صدقہ۔ اور آیت زیر بحث انہا الصدقۃ
 دغیرہ بلکہ قرطبی کی تحقیق تو یہ ہے کہ قرآن میں جب مطلق لفاظ صدقۃ بولا جاتا
 ہے تو اُس سے صدقہ فرض ہی مراد ہوتا ہے۔ اور روایت حدیث میں لفظ
 صدقہ ہر نیک کام کے لئے بھی استعمال ہوا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ کسی
 مسلمان سے خوش ہو کر ہلتا بھی صدقہ ہے کسی بوجہ الٹھانے والے کا بوجہ
 اٹھوا دینا بھی صدقہ ہے کنوں سے پانی کا ڈول اپنے لئے نکالا اس میں سے
 کسی دوسرا کے کو دیدینا بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث میں لفاظ صدقۃ مجازی
 طور پر نام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

تمہیرا انتظار اس کے بعد القصراء ہے اس کے شروع میں حرف

لام ہے جو تخصیص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس لئے معنی جملہ کے جو ہوں گے کہ تمام صدقات صرف انھیں لوگوں کا حق ہیں جن کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ اب اُن آٹھ مصارف کی تفصیل سنئے جو اسکے بعد مذکور ہیں۔

ان میں پہلا مصرف فقراء ہیں دوسرا مسماکین فقیر اور مسکین کے اصلی معنی میں اگرچہ اختلاف ہے۔ ایک کے معنی ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو ایک کے معنی ہیں جس کے پاس نصاب سے کم ہو لیکن حکم زکوٰۃ میں دونوں پہکاں ہیں کہ فی اختلاف نہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اُس کی ضروریات اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال نہ ہو یا بالکل ہی نہ ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اُس کے لئے زکوٰۃ یعنی بھی جائز ہے۔

ضروریات میں رہنے کا مکان استعمالی برتن اور کپڑے اور فرنچر وغیرہ بداخل ہیں۔ نصاب یعنی سو ناساڑھی سانتہ تو لہ۔ چاندی ساڑھے باون تو لہ یا اس کی قیمت جس کے پاس ہوا وہ قرضدار بھی نہ ہو اس کو نہ زکوٰۃ لینا جائز ہے نہ دینا اسی طرح وہ شخص جس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ پیسے نہ ہیں اور تھوڑا سا سونا ہے تو سب کی قیمت لگا کر اگر ساڑھے ہاون تو لہ چاندی کی قیمت کی برابر ہو جائے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ دینا اور لینا جائز نہیں۔ اور جو شخص صاحب نصاب نہیں پھر تو مگر تندیس قوی اور کمانے کے قابل ہے اور ایک دن کا گزارہ اُس کے پاس موجود ہے اُس کو اگر چھڑکیہ زکوٰۃ دینا جائز ہے مگر یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ اس میں بہت سے لوگ غلط بہت سے سوال کرنا ہے

لگوں کے لئے حرام ہے ایسا شخص جو کچھ سوال کر کے حاصل کرتا ہے اُس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہم کا انگارہ فرمایا ہے۔ (ایودا و دردست علی رضی قرطبی) حاصل یہ ہے کہ فقراء و مسکینین میں زکوٰۃ کے باب میں کوئی فرق نہیں۔ البته وصیت کے حکم میں فرق پڑتا ہے کہ مساکین کے لئے وصیت می ہے تو کیسے لوگوں کو دیا جائے اور فقراء کے لئے کی ہے تو کیسے لوگوں کو دیا جائے جس کے بیان کی یہاں ضرورت نہیں۔ فقراء اور مسکین کے دونوں مصروفوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ جس کو ماں زکوٰۃ دیا جائے وہ مسلمان ہو اور حاجات اصلیہ سے زائد قدر نصاب مال کامال ک نہ ہو۔

اگرچہ عام صدقات غیر مسلموں کو بھی دیے جاسکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تصدقوا علی اهول الا دیان حکاہ۔ یعنی ہر مذہب والے پر صدقہ کرو۔ لیکن صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ میسیح بن یحییٰ کے وقت پڑا بیت فرمائی۔ مخفی کہ ماں زکوٰۃ حرف مسلمانوں کے اغنياء سے لیا جائے اور انھیں کے فقراء پر صرف کیا جائے۔

اس لئے ماں زکوٰۃ کو صرف مسلم فقراء اور مساکین ہی پر صرف کیا جاسکتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات یہاں تک صدقہ الفطر بھی غیر مسلم فقیر مسکین کو دینا چاہزہ ہے۔ (ہدایہ)

اور دوسری شرط مالک نصاب نہ ہونے کی خود فقیر و مسکین کے معنی سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نکہ بالتو اُس کے پاس کچھ نہ ہو گا کا کم از کم مال نصاب

کی مقدار سیکم ہو گا۔ اس لئے فقراء اور مساکین دلوں اتنی بات ہیں ملکت
ہیں کہ ان کے پاس بتمدد نصایب مال موجود نہیں۔

ان دو مصروفون کے بعد اور چھ مصارف کا بیان آیا ہے ان میں سے
پہلا مصرف عاملین صدقہ ہیں جس کی مکمل تشریح آگئی ہے ان چھ
مصارف میں سے صرف عاملین صدقہ کا مصرف ایسا ہے جس میں فقراء و
محاجی شرط نہیں بلکہ اخنیاء کو بھی ان کی کارکردگی کی مقدار پر دیا جاتا ہے۔
ہاتھی ماندہ پانچوں مصاروف میں بالتفاق جمہور امرت فقر و حاجت مندی شرط
ہے اور اس بناء پر بیان مصارف میں صرف فقر اور عاملین صدقات کا
ذکر کر دینا کافی تھا۔ مگر دوسرے عنوانات کے لئے سے مقصود یہ ہے کہ
ان میں علما وہ فقر و مسکنست کے دوسرے اسباب استحقاق و امداد کے
بھی موجود ہیں۔

عاملین صدقہ دلوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات
وزکوٰۃ وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت
پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ اپنے کام اوقات اس خدمت میں خرچ
کرتے ہیں اس لئے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد
ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے مصارف زکوٰۃ میں ان کا حصہ رکھ کر یہ
ہتھیں کر دیا کہ ان کا حق اخلاقی خدمت اسی مذکوٰۃ سے دیا جائے گا۔

اس میں اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مسلمانوں سے زکوٰۃ و صدقات
وصول کرنے کا فریضہ برآہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد

فرمایا ہے۔ جس کا بیان آیت۔ خذ من اموالہ صدقۃ کے تحت میں اور پر آچکا ہے۔ اور آپ کے بعد مسلمانوں کے ہر امیر پر یہ فرضیہ عامد ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ و صدقات و صول کرنے اور یہ ظاہر ہے کہ امیر خود اس کام کو پورے ملک میں بغیر اعوان اور مددگاروں کے نہیں کر سکتا۔ انھیں اعوان اور مددگاروں کا ذکر مذکور الصدر آیت میں والعاملين علیہما کے الفاظ سے کیا گیا۔

انھیں آیات کی تعمیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو صدقات و صول کرنے کے لئے عامل بنانے کا مختلف خطوط میں جیسا ہے اور آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق زکوٰۃ ہی کی حاصل شدہ رقم میں سے ان کو حق الخدمت دیا ہے۔ ان میں وہ حضرات صحابہؓ شامل ہیں جو انھیا تھے۔ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کسی غنی یعنی مالدار کے لئے علاں نہیں بجز پانچ شخصوں کے ایک وہ شخص جو چہاد کے لئے نکلا ہے اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں۔ اگرچہ گھر میں مالدار ہو۔ دوسرا بے عامل صدقہ جو صدقہ و صول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو۔ تیسرا بے شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ کا مفروض ہے۔ چوتھے وہ شخص جو صدقہ کا مال کسی غریب مسکین سے پیسے دے کر خرید لے۔ پانچویں وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقہ کا حاصل شدہ مال بطور ہدایہ پیش کر دیا ہو۔

رہا یہ سئلہ کہ عاملین صدقہ کو اس نمائے سے کتنی رقم دی جائے۔ سو اس کا حکم ہے کہ ان کی محنت و عمل کی حیثیت کے مطابق دی جائے گی۔ (احکام القرآن حصاص۔ فاطمی)

البته یہ ضروری ہوگا کہ عاملین کی تخریب میں نصف زکوٰۃ سپرھنے نہ پاتیں۔ اگر زکوٰۃ کی دصیولیاپی اتنی کم ہو کہ عاملین کی تخریب میں بیکار نصف بھی باقی نہیں رہتی تو پھر تخریب میں کمی کی جائے گی نصف سے زائد صرف نہیں کیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری۔ ظہیرۃ)

بیان مذکور سے معلوم ہوا کہ عاملین صدقہ کو جو رقم مذکوٰۃ سے دی جاتی ہے وہ بحیثیت صدقہ نہیں بلکہ ان کی خدمت کا مقابلہ ہے اسی لئے با وجود غنی اور مالدار ہونے کے بھی وہ اس رقم کا مستحق ہے اُس کو دینا جائز ہے۔ اور مصارف زکوٰۃ کے آٹھ مرات ہیں۔ صرف ایک یہی مالیا سچے بیان یہی رقم مذکوٰۃ بطور دعا وضہ خدمت دی جاتی ہے ورنہ زکوٰۃ نام ہی اُس عطیہ کا ہے جو غریبوں کو بغیر کسی معادضہ خدمت کے دیا جائے اور اگر کسی غریب فقیر کو کوئی خدمت لے کر مال زکوٰۃ دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔

اسی لئے یہاں دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ مال زکوٰۃ کو معادضہ خدمت میں کیسے دیا گیا دوسرا یہ کہ مالدار کے لئے یہ مال کی کتاب کیسے ہوا۔ ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ عاملین صدقہ کی اصلی حیثیت کو سمجھ لیا جائے وہ یہ ہے کہ پحضرات، فقراء کے وکیل کی

حیثیت رکھتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ دکیل کا قبضہ اصل موکل
کے قبضہ کے حکم میں ہوتا ہے اگر کوئی شخص اپنا قرض وصول کرنے کے لئے
کسی کو دکیل خوار بنادے اور قرضدار یہ قرض دکیل کو سپرد کر دے تو دکیل
کا قبضہ ہوتے ہی قرضدار برمی ہو جاتا ہے۔ لوجب رقم زکوٰۃ عاملین صدقہ
نے فقرا کے دکیل ہونے کی حیثیت سے وصول کری ٹوان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی
اب پر یہ پوری رقم فقراء کی ملک ہے جن کی طرف سے بطور دکیل انہوں نے
وصول کی ہے۔ اب جو رقم حق الخدمت کی اُن کو دی جاتی ہے وہ مالداروں
کی طرف سے نہیں بلکہ فقراء کی طرف سے ہوئی اور فقراء کو اس میں ہر
طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے ان کو یہ بھی حق ہے کہ اپنا کام ان لوگوں
سے ہیتے ہیں تو اپنی رقم میں سے ان کو معاوضہ خدمت دیدیں۔ اب سوال
یہ رہ جاتا ہے کہ فقرا نے تو ان کو دکیل خوار بنایا ہیں۔ یہ ان کے دکیل
کیسے بن سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ جس کو امیر
کہا جاتا ہے۔ وہ قدرتی طور پر مجاہد اللہ پورے ملک کے فقرا غرباً کا
دکیل ہوتا ہے کیونکہ ان سب کی ضروریات کی ذمہ داری اس پر عالمہ ہوتی ہے
امیر نہ لکھتا جس کو صدقات کی وصولیابی پر عامل بنادے وہ سب ان کے
نامہ کی حیثیت سے فقراء کے دکیل ہو جاتے ہیں۔

اس نے معلوم ہو گیا کہ عاملین صدقہ کو جو کچھ دیا گیا وہ درحقیقت
زکوٰۃ نہیں دی گئی بلکہ زکوٰۃ جن فقرا کا حق ہے اُن کی طرف سے معاوضہ
خدمت دیا گیا۔ جیسے کوئی غریب فقیر کسی کو اپنے مقدمہ کا دکیل بنائے

اور اس کا حق الخدمت زکوٰۃ کے حاصل شدہ مال سے ادا کر دئے تو یہ
دینے والا بطور زکوٰۃ کے دے رہا ہے نہ لینے والا زکوٰۃ کی حیثیت سے لے
لے رہا ہے۔

مدارس اور انجمنوں کے سفیر عالمی صورت کے حکم نہیں ہیں

بیان مذکور سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آنہ کل جو اسلامی مدارس اور
انجمنوں کے ہتھم یا ان کی طرف سے پہچھے ہوئے سفیر صورتات زکوٰۃ مدارس
اور انجمنوں کے لئے وصول کرتے ہیں ان کا وہ حکم نہیں جو عالمیں صدقہ کا
اس آپست میں ذکر ہے کہ زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی تحریاہ دی جاسکے۔ بلکہ
ان کو مدارس اور انجمن کی طرف سے ہلا گانہ تحریاہ دینا ضروری ہے ان
کی تحریاہ زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ فقرا مکے دلیل
نہیں بلکہ اصحاب زکوٰۃ مدارسوں کے دلیل ہی ان کی طرف سے مال زکوٰۃ
صرف پر لگائے کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اسی لئے ان کے تبعض ہو جانے
کے بعد بھی زکوٰۃ اُنہیں وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک یہ عفرات اُس
کو مصرف ہے خرچ نہ کر دیں۔

فقرا کا دلیل نہ ہونا اس لئے ظاہر ہے کہ حقیقی طور پر تو کسی فقیر نے
ان کو اپنا دلیل بنایا نہیں۔ اور امیر المؤمنین کی ولایت عامہ کی بنا پر جو خود
بخود و کالم فقرا حاصل ہوتی ہے وہ ان کو حاصل نہیں۔ اس لئے بجز
اس کے کوئی صورت نہیں کہ ان کی اصحاب زکوٰۃ کا دلیل قرار دیا جائے اور

جب تک یہ اس مال کو مصرف پر خرچ نہ کر دیں ان کا قبضہ ایسا ہی ہے جیسا
زکوٰۃ کی رقم خود اپنے پاس رکھی ہو۔

اس معاملہ میں عام طور پر عقلت بر قی جاتی ہے بہت سے ادارے
زکوٰۃ کا فنڈ و صول کر کے اُس کو سالہا سال رکھتے ہیں اور اصحاب زکوٰۃ
سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ حالانکہ ان کی زکوٰۃ اس وقت ادا ہو گئی
جب ان کی رقم مصارف زکوٰۃ پر صرف ہو جاتے گی۔ اسی طرح بہت سے
لوگ ناواقفیت سے اپنے سپیروں کو عامدین صدقہ کے حکم میں
داخل سمجھ کر زکوٰۃ کی رقم ہی سے ان کی تنخواہ دیتے ہیں یہ نہ دینے والوں کے
لئے جائز ہے نہ لئے والوں کے لئے۔

ایک اور سوال عبادت پر اجرت

یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اشارات
اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تصریحات سے یہ
بات ثابت ہے کہ کسی عبادت پر اجرت و معاوضہ لینا حرام ہے مسندر احمد
کی حدیث میں روایت عبد الرحمن بن سہل منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ اقرأ القرآن ولاتکلوا به يعني قرآن پر حصہ مگر
اُس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ اور بعض روایات میں اُس معاوضہ کو قطع
جهنم فرمایا ہے جو قرآن پر لیا جائے۔ اس کی بناء پر فقہاء امت کااتفاق ہے کہ
طاعات و عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صدقات

وصول سرنے کا کام ایک دینی خدمت اور عبادت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قسم کا جہاد فرمایا ہے۔ اس کا مقتضی یہ تھا کہ اس پر کوئی اجرت و معاوضہ لینا حرام ہوتا۔ حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت نے صراحةً اس کو جائز قرار دیا اور زکوٰۃ کے آنحضرت مصارف میں اس کو داخل فرمایا۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا کہ جو عبادات فرض ہیں یا واجب عین ہیں ان پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے لیکن جو فرض کفا یہ ہیں اُن پر کوئی معاوضہ لینا اسی آیت کی رو سے جائز ہے فرض کفا یہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر کے ذمہ فرض کیا گیا ہے مگر یہ لازم نہیں کہ سب ہی اس کو کریں اگر بعض لوگ ادا کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ اسی آیت سے ثابت ہوا کہ امامت خلیت کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی واجب علی العین نہیں بلکہ کفا یہ ہے انتہی۔ اسی طرح تعالیٰ قرآن و حدیث اور دوسرے دینی علوم کا بھی یہی حال ہے کہ یہ سب کام پوری امت کے ذمہ فرض کفایہ ہیں اگر بعض لوگ کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں اس لئے اس پر کوئی معاوضہ اور تحریکی نہ ہو بھی جائز ہے۔

چوتھا مصرف مصارف زکوٰۃ میں مولفۃ القلوب ہیں

یہ دہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لئے ان کو صدقات دئے جاتے تھے۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں تین چار قسم کے لوگ شامل تھے کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم بھرپور مسلمانوں میں بعض تو وہ لوگ تھے جو غریب حاجت مند بھی تھے اور نو مسلم بھی ان کی دل جوئی اس لئے کی جاتی تھی کہ اسلام پر بخوبی ہو جائیں اور بعض وہ تھے جو مالدار ہیں اور مسلمان ہو گئے تھے مگر ابھی تک ایمان کا رنگ ان کے دلیوں میں رچا نہیں تھا۔ اور بعض وہ لوگ تھے جو خود تو پر مسلمان تھے مگر ان کی قوم کو ان کے ذریعہ ہدا یت پر لانا اور بخوبی کرنا مقصود تھا اور غیر مسلموں میں بھی کچھ وہ لوگ تھے جن کے شر سے بچنے کے لئے ان کی دل جوئی کی جاتی تھی اور بعض وہ جن کے بارے میں تجربہ یہ تھا کہ نہ تبلیغ و تعلیم سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ نہ چنگ و تشدد سے بلکہ احسان حسن سلوک سے متاثر ہوتے ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ وسلم جو یہ چاہتے تھے کہ خلق خدا کو کفر کی ظلمت سے مکمال کر تو ایمان میں لے آئیں اس کے لئے وہ قسم کی جائز تدبیر کرتے تھے جس سے یہ لوگ متاثر ہو سکیں۔ یہ سب قسم میں عام طور پر مولفۃ القلوب میں داخل بھی جاتی ہیں جن کو صدقات کا چون تھا مصروف اس آیت میں قرار دیا ہے۔

عام خیال کے مطابق ان میں مسلم و غیر مسلم دونوں طرح کے لوگ تھے غیر مسلموں کی دل جوئی اسلام کی ترغیب کے لئے اور نو مسلموں کی دل جوئی اسلام پر بخوبی کرنے کے لئے کی جاتی تھی۔ عام طور پر مذکور یہ ہے کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاص عمل اور

مصلحت کرنے جس کا ذکر ابھی آچکا ہے صدقات دئے جاتے تھے۔ انحضر
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کہ اسلام کو مادی قوت بھی حاصل ہو گئی اور
کفار کے شر سے بچنے یا نیسلمتوں کو اسلام پر بخوبی کرنے کے لئے اس طرح
کی تدبیروں کی ضرورت نہ رہی تو وہ علت اور مصلحت ختم ہو گئی۔ اس لئے
آن کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ جس کو بعض فقہاء نے منسوخ ہو جانے سے تعجب
فرمایا ہے۔ فاروق اعظم جسن بصری۔ شعبی۔ ابوحنیفہ۔ مالک بن انس
رضی اللہ عنہم کی طرف یہی قول منسوب ہے۔

اور بہت سے حضرات نے فرمایا کہ مولفۃ القلوب کا حصہ شیخ
نہیں بلکہ صدیق اکبر رضا اور فاروق اعظم رضی کے زمانہ میں اس کو ساقط کرنے
کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے ان کا حصہ ساقط کر دیا گیا۔
آئندہ کسی زمانہ میں پھر ایسی ضرورت پیش آجائے تو پھر دیا جانا ممکنا ہے۔
امام زہری قاضی عبد الوہاب ابن عربی امام شافعی اور امام احمد کا یہی زمانہ
ہے جین تحقیقی اور صحیح بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو صدقات زکوٰۃ کے سے دقت
کسی زمانہ میں حصہ نہیں دیا گیا۔ اور وہ مولفۃ القلوب میں داخل ہیں جن
کا ذکر معکارف صدقات میں آیا ہے۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ان سب لوگوں کے نام انصبل کے ساتھ
شمار کئے ہیں جن کی دلجموی کے نئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد
صدقات سے حصہ دیا ہے اور سب شمار کرنے کے بعد فرمایا ہے با جملة
کلهم موسمن دلهم یکن فیہم حکا فر۔ یعنی غلاصہ یہ ہے مولفۃ

انقلوب سب کے سپلائر ہی تھے۔ ان میں کوئی کافر شامل نہیں تھا اسی طرح تفسیر مظہری میں ہے لہجہ پیش کیا گی کافر کا مال زکوٰۃ۔
سلہم اعطیٰ احمد امن الکفار لیلہ بیان شیئاً من الزکوٰۃ۔
یعنی یہ بات کسی روایت سے ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کو مال زکوٰۃ سے دلچسپی کے لئے حصہ دیا ہوا۔ اس کی تائید تفسیر کشاف کی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مصارف صدقات کا بیان یہاں ان کفار منافقین کے جواب میں آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تفسیر صدقات کے بارے میں یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم کو صدقات نہیں دیتے اس آیت میں مصارف صدقات کی تفصیل بیان فرمائے سے مقصد یہ ہے کہ ان کو بتلا دیا جائے کہ کافر کا کوئی حق مال صدقات میں نہیں ہے۔ اگر مولف القلوٰۃ میں کافر بھی داخل ہوں تو یہ مقصد قوت ہوتا ہے۔

تفسیر مظہری میں اس مقالطہ کو بھی اچھی طرح رفع کر دیا ہے جو بعض روایات حدیث کے سیدب لوگوں کو پیش آیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غیر مسلموں کو کچھ عطایات دیے ہیں۔
چنانچہ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت میں جو یہ مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحفوان ابن امیہ کو کافر ہونے کے زمانے میں کچھ عطایات دیئے۔ اس کے متعلق امام نووی کے حوالہ سے تحریر فرمایا کہ یہ عطایات زکوٰۃ کے مال سے نہ تھے بلکہ غزوہ خنین کے مال غنیمت کا جو خس بہت المال میں داخل ہوا اُس میں سے دیئے گئے اور یہ ظاہر ہے کہ بہت المال کے

اُس صد سے مسلم و غیر مسلم دنوں پر خرچ کرنا با تفاق فقہا جائز ہے۔ بھپر فرمایا کہ امام ہی حقیقی۔ ابن سید الناس۔ امام ابن کثیر و غیرہم سب نے یہی قرار دیا ہے کہ یہ عطا مال زکوٰۃ سے نہیں بلکہ خمس غنیمت سے تھی۔

عہد رسالت میں مدد و صدقات کو ووسری مددات سے جدا رکھنے کا اہتمام

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اموال صدقات اگرچہ بیت المال میں جمع کئے جاتے تھے مگر ان کا حساب بالکل جدا تھا اور بیت المال کی ووسری مددات چھیز خمس غنیمت خمس معادن وغیرہ ان کا حساب جدا اور ہر ایک کے مصارف جدا تھے۔ جیسا کہ حضرات فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ اسلامی حکومت کے بیت المال میں چار مد علیحدہ علیحدہ رکھنا نہیں بلکہ ہر ایک مد کا بیت المال الگ ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک کو اس کے مصرف میں خرچ کرنے کی پوری احتیاط قائم رہے۔ البتہ اگر کسی وقت کسی خاص مد میں کمی ہو تو ووسرے مدد سے لطور قرض سے کراس پر خرچ کیا جا سکتا۔ یہ مددات بیت المال ہیں۔ اول خمس غنیمہ یعنی جو مال بندی علیہ جنگ حاصل ہواں کے چاہے جھٹکے مجاہدین میں تقسیم کر کے باقی پانچواں حصہ بیت المال کا حق ہے۔ اول خمس معادن یعنی مختلف قسم کی کالوں سے نکلنے والی اشیاء میں سے

پانچواں حصہ جو بیت المال کا حق ہے اور حس رکاز یعنی جو قدر یہم خدا نہ کسی زمین سے برآمد ہواں کا بھی پانچواں حصہ بیت المال کا حق ہے یہ تینیوں قسم کے خمس بیت المال کی ایک ہر آمد میں داخل ہیں۔

دوسری مدد صدقات ہیں۔ جس میں مسلمانوں کی زکوٰۃ۔ صدقۃ الفطر۔ اور آن کی زمینیوں کا عشر داخل ہے۔

تیسرا مدد خراج اور مال فیئی ہے۔ جس میں غیر مسلموں کی زمینیوں سے حاصل شدہ خراج اور آن کا جز یہ اور آن سے حاصل شدہ تجارتی ٹکیس اور تمام دہ اموال داخل ہیں جو غیر مسلموں سے ان کی رفاه مدد کے ساتھ مصا لحاظ طور پر حاصل ہوں۔

چوتھی مدد ضوابع کی ہے جس میں لا دارث مال۔ لا دارث شخص کی میراث وغیرہ داغل ہیں۔ ان چار مددات کے مصارف اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن فقراء مساکین کا حق ان چاروں مددات میں شامل رکھا گیا ہے۔ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ اسلامی حکومت میں قوم کے اس ضعیف عنصر کو قوی کرنے کا کس قدر اہتمام کیا گیا ہے۔ جو درحقیقت اسلامی حکومت کا طغری امتیاز ہے۔ اور دنیا کے عام نظاموں میں ایک مخصوص طبقہ ہی برتاؤ پڑتا ہے غریب کو ابھرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جس کے زرع عمل نے اشتہرا کیست اور کمپیو نرم کو جنم دیا مگر وہ بالکل ایک غیر فطری اصول ہے اور بارش سے بھاگ کر پرناہ کے نیچے کھڑکے ہو جانے کا مراد ف اور آنی اخلاق کے لئے ستم قائل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت پر چار بہتے المال پہنچ دادا تھے مکمل اگلے
مقرر ہیں اور فقرہ اول سما کیجئے کا حقنی ان چاروں پہنچ کو اسی سے پہلی
ثین مددوں کے مصارف خود قرآن کریم نے تفصیل کیے ہاتھ مذکورین تباکرو اربع
طور پر بیان کر رکھے ہیں۔ نہیں مددعی خمس غنا کم اور المال کے مصارف کا بیان وہ
انفال دسویں پارہ کے شروع میں مذکور ہے۔ اور دوسرا مرکب درجی صدقات
کے مصارف کا بیان سورہ توبہ کی مذکورہ الحمد و سلام کو جواہر آئندہ میں آیا ہے تھیں
کی تفصیل اس وقت زیر بحث ہے۔ اول تیسرا مذکورہ کو اصطلاح میں مال
غیری سے تعمیر کیا جاتا ہے اس کا بیان سورہ حشر میں تفصیل کیے ہاتھ آیا ہے۔
اسلامی حکومت کے اکثر مددات فوجی اخراجات اور عمال حکومت کی نخواہیں
وغیرہ اسی مدد سے خرچ کی جاتی ہیں۔ چوکھی مددعی لاوارث مال رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور خلفاء راشدین کے توانا میں سیئے اپنے تجویزات
اور لاوارث بچوں کے لئے مخصوص ہے۔ (شامی کتاب الزکاة)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرات فقہا نے جو بہتے المال کی چاروں
مددات کو بالکل الگ الگ رکھنے اور اپنے اسی پر عینہ دیا ہے میں خرچ
کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ یہ سب قرآنی ارشادات اور رسول کریم مالی ادارے علیہ
 وسلم پر خلفاء راشدین کے توانی سے واضح طور پر تابوت ہیں۔ مخصوصاً
 صدقات دوسری مددات سے الگ رکھنے اور اس کو صرف غیر اشیٰ فقرہ اور
 مساکین کا حق قرار دینا اُس حدیثہ صحیح سے بھی ثابت ہے میں مذکور ہے
 کہ عصریہ حضور ﷺ نے ایک مردمہ کیس کا سورا ٹھوک کر دیا تو کہ (فِی) آنے کی وجہ
 میں

نے اُن کے منہ سے اس لئے نکلوادی کہ یہ کھجور صدقہ کی بھی اور بنی ہاشم کے
لئے صدقہ حلال نہیں۔ اگر صدقات کو بہت المال میں علیحدہ رکھتے کا دستور
نہ ہوتا تو صدقات کی پختہ خصوصیت کیسے باقی رہتی جبکہ یہ بھی ثابت ہے کہ بہت المال
سے بنی ہاشم کو بھی وظائف دیئے جاتے تھے۔

اس صحتی فائدہ کے بعد پھر اصل مسئلہ مولفہ القلوب کو سمجھئے کہ مذکور
الصدر بیان میں محققین محدثین و فقہاء کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے
کہ مولفہ القلوب کا حصہ کسی کافر کو کسی وقت بھی نہیں دیا گیا ان رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ خلفاء راشدین کے زمانہ میں اور جن غیر
مسلموں کو دینا ثابت ہے وہ مدد صدقات و زکوٰۃ سے نہیں بلکہ خمس غینیمت میں
سے دیا گیا ہے جس میں سے ہر حاجت مسلم و غیر مسلم کو دیا جاسکتا ہے تو مولفہ
القلوب صرف مسلم رہ گئے اور ان میں جو فقراء ہیں ان کا حصہ بدستور باقی ہونے
پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اختلاف صرف اس صورت میں رہ گیا کہ یہ لوگ
غیری صاحب نصاب ہوں تو امام شافعی امام احمد کے نزدیک چونکہ تمام
مصارف زکوٰۃ میں فقرو و حاجتمندی شرط نہیں اس لئے وہ مولفہ القلوب میں
ایسے لوگوں کو بھی داخل کرتے ہیں جو غیری اور صاحب نصاب ہیں۔ امام عظیم
ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک عاملین صدقہ کے علاوہ باقی تمام
مصارف میں فقرو و حاجتمندی شرط ہے اس لئے مولفہ القلوب کا حصہ بھی
اُن کو اسی شرط کے ساتھ دیا جائے گا کہ وہ فقیر و حاجتمند ہوں۔ جس سے غارمین
اور قاب ابن السبیل وغیرہ سب میں اسی شرط کے ساتھ اُن کو زکوٰۃ دی

جاتی ہے کہ وہ اس جگہ حا جمّنند ہوں گو وہا پنے مقام میں مالدار ہوں اس حقیق
کا نبھ، یہ نکلا کم صولفۃ القلوب کا حصہ آئُمہ ارجمند کے نزدیک ملنو خ نہیں۔
فرزد عرف اُنٹا ہے کہ بعض حضرات نے فقراء مساکین کے علاوہ کسی دوسرے
مصارف کو فقر و حاجمّندری کے ساتھ مشروط نہیں کیا اور بعض نے یہ شرط کی
ہے بین حضرات نے یہ شرط لکھی ہے وہ مولفہ القلوب میں بھی صرف ان لوگوں
کو دریں گے جو حاجمّندر اور غریب ہوں بہر حال یہ حصہ قائم اور باقی ہو (تفصیلی تحریر)
یہاں تک صدقات کے آٹھ مصارف میں سے چار کا بیان آیا ہے اور
چاروں کا حرف لام کے تحت بیان ہوا للفقرا و المساکین والعامليین
بتلیہما و المؤلفۃ قلوبیہم۔ آگے جن چار مصارف کا ذکر ہے ان میں عنوان
پہل کر لوم کی جگہ حرف فی الاستعمال فرمایا۔ وفی المرقاب والغارمیں زخشری
ہے کشاف میں اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ
کہ زیامت قبور ہے کہ پہ آخری چار مصرف پہ نسبت پہلے چار کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ
حر نفی ظرفیت کے لئے بولا جاتا ہے جس کی وجہ سے معنی یہ پیدا ہوتے ہیں کہ
صد نات کو ان لوگوں کے اندر رکھ دینا چاہیے۔ اندر ان کے زیادہ مستحق
ہو نہ کی وجہ ان کا زیادہ ضر و تمّن ہونا ہے کیونکہ جو شخص کسی کا مملوک غلام
ہے ہ بہ نسبت عام فقراء کے زیادہ تکلیف میں ہے اسی طرح جو کسی کا قرضدار
ہے ا بر قرض خواہوں کا اُس پر تقاضا ہے وہ عام غریبان فقراء سے زیادہ تنگی
میں ہے کہ اپنے اخراجات کے فکر سے بھی زیادہ قرضداروں کے قرض کی
قدراں کے ذمہ ہے۔

ان باقیماندہ چار مصارف میں سب سے پہلے وفی الرقاپ کے بارے
 فرمایا ہے رقاپ رقبہ کی جمع ہے اصل میں گردن کو رقبہ کہتے ہیں۔ عرف میں اُن
 شخص کو رقبہ کہدیا جاتا ہے جس کی گردن کسی دوسرے کی غلامی میں مقید ہے۔
 اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ رقاپ سے مراد اس آیت میں کیا ہے جو
 فقہاء محدثین اس پر ہیں کہ اس سے مراد وہ غلام ہی جن کے آقاوں نے کوئی
 مقدار میال کی متغیر کر کے کہدیا ہے کہ اتنامال لکھا کر ہمیں دید و تو تم آزاد
 ہو جیس کو اصطلاح قرآن و سنت میں مکاتب کہا جاتا ہے۔ لیکن شخص کو آزاد
 اس کی اجازت دیدیتا ہے کہ وہ تجارت یا هزدوری کے ذریعہ مال کما۔
 اور آقا کو لا کر دے۔ آیت مذکورہ میں رقاپ سے مراد یہ ہے کہ اس شخص
 کو رقبہ زکوٰۃ میں سے حصہ دیکر اس کی گلو غلاصی میں امداد کی جائے۔

ان کے علاوہ دوسرے علماء کو خرید کر آزاد کرنا یا ان کے آقاوں
 کو رقبہ زکوٰۃ دے کر یہ معاہدہ کر لینا کہ وہ ان کو آزاد کر دیں گے اس میں
 آنکہ فقہا کا اختلاف ہے جس میں ابوجعفر شافعیؑ، احمد بن حنبلؓ، عیین
 اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور حضرت امام مالکؓ بھی ایک روایت میں جس میں
 ساتھ متفق ہیں کہ فی الرقاپ کو صرف مکاتب علماء کے ساتھ مخصوص
 فرمائی ہیں۔ اور ایک روایت امام مالکؓ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ فی الرقاپ
 میں عام علماء کو داخل کر کے اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ کہ رُبم
 زکوٰۃ سے علماء خرید کر آزاد کئے جائیں۔ (احکام القرآن ابن عربی مالکی نہیں)
 آنکہ دو فقہاء جو اس کو جائز نہیں رکھتے ان کے پیش نظر یہ اشکال ہیں کہ

اگر زکوٰۃ کے غلام کو خرید کر آزاد کیا گیا تو اس پر صدقہ کی تعریف ہی صادق ہنیں آتی ہے۔ یونکہ صدقہ وہ مال ہے جو کسی مستحق کو بلا معاوضہ دیا جائے کے۔ رقم زکوٰۃ اگر آتا ہے دی جائے تو ظاہر ہے کہ نہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور نہ اس کو یہ رقم بلا معاوضہ کے دی جا رہی ہے۔ افر غلام جو مستحق زکوٰۃ ہے اُس کو یہ رقم دی ہنیں گئی یہ الگ بات ہے کہ اس رقم کے دینے کا فائدہ غلام کو پہنچ گیا کہ اس نے خرید کر آزاد کر دیا۔ مگر آزاد کرنا صدقہ کی تعریف میں داخل ہنیں ہوتا۔ اور حقیقی معنی کو بلا وجہ چھپوڑ کر صدقہ کے مجازی معنی عام مراد ہے کہ اس جگہ کو اس جواز ہنیں۔

اوہ یہ بھی ظاہر ہے کہ آیت مذکورہ میں مصارف صدقات کے بیان کئے جا رہے ہیں۔ اس لئے فی الرقاب کامصالق کوئی ایسی چیز ہنیں بن سکتی۔ جس پر صدقہ کا تصریف ہی صادق نہ آئے۔ اور اگر یہ رقم زکوٰۃ جو غلام کو دی جائے تو غلام کی کوئی ملکہ نہیں ہوتی۔ وہ خود بخود آتا کامال بن جائے گا پھر آزاد کرنا بخوبی اس کے اختیارات میں رہے گا۔

ان وجود سے چھپوڑ آمہ اور فقیر اسے فرمایا کہ فی الرقاب میں مراد صرف غلام مکاتب ہیں۔ ان سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صدقہ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ کسی مستحق (اکملکہ بنانا کر اس کے قبضہ میں دیدیا جائے۔ جب تک مستحق کاملاً کا نہ بخشدہ اُس پر نہیں ہو گا۔ زکوٰۃ ادا نہیں ہو گی)

چھپٹا مصرف، العارضین غارم کی بیج ہے جس کے معنی مددیوں یعنی قرضدار کے ہیں۔ یہ ہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ پانچواں اور چھپٹا مصرف جو حرف

فی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اتحاق میں پہلے چاروں مصاف سے زیادہ ہیں۔ اس لئے علام کی گلو خلاصی کے لئے یا قرضدار کو ادائی قرض کے لئے دینا عام فقراء مساکین کو دینے سے زیادہ افضل ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس قرضدار کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ قرض ادا کر سکے یعنی نک غارم غت میں ایسے ہی قرضدار کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض ائمہ فقہاء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ یہ قرض اُس نے کسی ناجائز کام کے لئے نہ کیا ہو۔ اور اگر کسی گناہ کے لئے قرض کر لیا جیسے ثراب وغیرہ پاشادی غنی کی ناجائز سہیں وغیرہ تو ایسے قرضدار کو مذکورہ سے نہ دیا جائے گا تاکہ اُس کی معصیت، اور اصراف بجا کی حوصلہ افرزائی نہ ہو۔ سالہوں مصرف فی سبیل اللہ ۔۔۔ پہاں پھر حرف حق کا اعادہ کیا گیا۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ اس اعادہ سے س طرف اشارہ کرنے ا منتظر ہے کہ یہ مصرف پہلے سب مصارف سے افضل اور پتھر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دو فائدے ہیں ایک تو غریب مفلس کی امداد و مددے ایک دینی خدمت میں اعانت کیونکہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ خانہ ہی اور مجاہد ہے جس کے پاس اسلحہ اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لئے مال نہ ہو یا وہ شخص جس کے ذمہ جو فرض ہو جپکا مگر اُس کے پاس اب مال نہیں رہا۔ جس سے وہ صحیح قرض ادا کرے۔

یہ دو نوں کام خاص دینی خدمت اور عبادت ہیں اس لئے مال زکوٰۃ کو ان پر خرچ کرنے میں ایک مفلس کی امداد بھی ہے اور ایک عبادت کی ادائیگی میں تعاون بھی۔ اسی طرح حضرات فقہاء نے طالب علم محل کو بھی

اس میں شامل کیا ہے کہ وہ بھی ایک عبادت کی ادائیگی کے لئے یہی ہے۔
 (ردح بحوالہ ظہیرہ) اور صاحب بدائع نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کوئی نیک کام یا عبادت کرنا چاہتا ہے اور اُس کی ادائیگی میں مال کی ضرورت ہے تو وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے بشرطیکہ اُس کے پاس اتنا مال نہ ہوں سے اس کام کو پول کر سکے جیسے دین کی تعلیم اور تبلیغ اور اس کے لئے نشوہ اشاعت۔ کہ اگر کوئی غریب سخت زکوٰۃ یا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی ادا مال زکوٰۃ سے کر دی جائے۔ مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان کام صورتوں میں جو فی سبیل اللہ کی تفسیر میں مذکور ہیں فقر و حاجتمندی کی شرط ملحوظ ہے غنی صاحب نصاب کا اس میں بھی حصہ نہیں بجز اس کے کہ اُس کا موجود مال اُس ضرورت کو پورانہ کر سکتا ہو جو جہاد یا حج کے لئے درہشی ہے تو اگر ہم بقدر نصاب مال موجود ہونے کی وجہ سے اس کو غنی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ایک حد بیٹھ میں اُس کو غنی کہا گیا ہے مگر درحقیقت وہ بھی اس اعتیار سے فقیر و حاجتمند ہو گیا کہ جس قدر مال جہاد یا حج کے لئے درکار ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں۔ فتح القدير میں شیخ ابن ہمام نے فرمایا کہ آیت صدقات میں جتنے مصرف ذکر کئے گئے ہیں ہر ایک کے الفاظ خود اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ فقر و حاجتمندی کی بناء پر مستحق ہیں۔ لفظ فقیر مسکین میں نویں ظاہر ہے سراقب غار میں فی سبیل اللہ ابن السبیل کے الفاظ بھی اس طرف مشیر ہیں کہ ان کی حاجت کی بناء پر ان کو دیا جاتا ہے البتہ غالباً ان کو بطور معاوضہ خدمت دیا جاتا ہے اسی لئے اُس میں غنی و فقیر

براہر ہیں۔

یہیے غاریب کے مصرف میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جس شخص کے ذمہ
وں ٹارو و پیر قرض ہے اور پانچ ہزار روپیہ اُس کے پاس موجود ہے تو
اُس کو یقیناً پانچ ہزار سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ جو مال اس کے پاس
موجود ہے وہ قرض کی وجہ سے نہ ہونے کے حکم میں ہے۔

لِفَظٌ فِي سُبْلِ اللّٰهِ إِلَيْهِ الْمَصْرِ اِنَّكَ عَامٌ مَعَالِمُهُ اُسُّ کَا جواب

لفظ فی سبیل اللہ کے لفظی معنی بہت عام ہیں جو کام اللہ کی رضا
جو کی وجہ سے کہے جاتیں وہ سب اس عام مفہوم کے اعتبار سے فی سبیل اللہ
میں داخل ہیں جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و بیان اور آئندہ
تفسیر کے ارشادات سے قطع نظر حضر لفظی ترجمہ کے ذریعہ قرآن مجیدنا چاہتے
ہیں یہاں اُن کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ لفظ فی سبیل اللہ یک حکم زکوٰۃ کے
مصارف میں اُن تمام کاموں کو داخل کر دیا جو کسی عیشیت سے نیکی یا عیادت
ہیں۔ مساجد۔ مدارس۔ شفاخاں۔ فرخاں۔ دغیرہ کی تعمیر۔ کنوں اور پل
اور سڑکیں۔ بنا۔ اور ادا رفاقتی اداروں کے ملازمین کی تنخوا ہیں اور تمام دفتری
خود ریاست یہاں تک کہ یا سی سفر اور نشر و اشاعت کے تمام کاموں کو انہوں
نے فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دیدیا۔

جو خود اسلوب پر قرآن کے لحاظ سے سراسر غلط اور اجماع امت کے
خلاف ہے۔ صحابہ کرام حبقوں نے قرآن کو براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے پڑھا اور سمجھا ہے ان کی اور آئمہ تابعین کی جتنی تفسیریں اس لفظ کے متعلق منقول ہیں ان میں اس لفظ کو حجاج اور مجاہدین کے لئے مخصوص قرار دیا ہے ایک حدیث یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے ایک اونٹ کو فرما کر اس اونٹ کو حجاج کے سفر میں استعمال کرو (بسیط اختری ص ۱ ج ۲) امام ابن حبیب این کثیر قدر اکن کی تفسیر و ایات حدیث کی سے کرنے کے پابند ہیں۔ ان سے پہلے لفظ فی سبیل اللہ کو ایسے مجاہدین اور حجاج کے لئے مخصوص کہا ہے کہ جن کے پاس جہاز یا بح کا سامان نہ ہو۔ اور جن حضرات فقہائی طالب علموں باور مصروف کام کر رہے والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کہا گیا کہ وہ فقیر و حاجتمند ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ فقیر و حاجتمند تو خود ہی مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا مصرف ہے اس کو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل نہ کیا ہے تا جسی بھی وہ مستحق زکوٰۃ تھے۔ لیکن آئمہ اربعہ اور فقہاء امت میں سے کسی نہیں کہا کہ رفاه عام کے اداروں اور ساجدوں مدارس کی تعمیر اور ان کی جملہ ضروریات مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں۔ بلکہ اس کے خلاف اس کی تصریحت فرمائی ہیں کہ مال زکوٰۃ الچیزوں پر صرف کرنا جائز نہیں۔ فقہاء حنفیہ میں سے تھے ائمہ اختری میں میسوط اور شرح سیہر میں اور فقہاء شافعیہ میں ابو عبلیہ رضی اللہ عنہ کتاب الاموال میں اور فقہاء مالکیہ میں سے درود رضی اللہ عنہ شرح مختصر خلیل میں اور فقہاء حنابلہ میں موقوف تھے مخفی میں اسکو

پوری تفصیل سے بحث ہے۔ آئندہ تفسیر اور فقہاء امت کی تصریحات کے علاوہ اگر ایک بات پر غور کر لیا جائے تو اس مسئلہ کے سمجھنے کے لئے بالکل کافی ہے وہ یہ کہ اگر زکوٰۃ کے مصرف میں اتنا عموم ہوتا کہ تمام اطاعت و عبادات اور ہر قسم کی نیکی پر خرچ اُس میں داخل ہو تو پھر قرآن میں ان آٹھ مصروف کا بیان (معاذ اللہ) بالکل فضول ہو جاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو پہلے اسی سلسلہ میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات متعین کرنے کا کام نبی کو بھی سپرد نہیں کیا بلکہ خود ہی اُس کے آٹھ مصرف متعین فرماد تھے۔

اگر فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام طاعات و نیکیاں داخل ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے تو معاذ اللہ یہ ارشاد نبوی بالکل غلط تھہرتا ہے معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ کے لغوی ترجیح سے نادا قف کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے بلکہ مراد وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ و تابعین کی تصریحات سے ثابت ہے۔

آٹھویں مصرف ابن السبیل ہے سبیل کے معنی راستہ اور ابن کا لفظ اصل میں تو بیٹھ کے لئے بولا جاتا ہے لیکن عربی محاورہ میں ابن اور اب اور آخ وغیرہ کے الفاظ ان چیزوں کے لئے بھی بولے جاتے ہیں جن کا گہرا تعلق کسی سے ہو۔ اسی محاورہ کے مطابق ابن السبیل را گیرہ سافر کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا گہرا تعلق راستہ قطع کرنے کے اور منزل مقصد پر پہنچنے

ہے۔ اور مصارف زکوٰۃ میں اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس ضفر میں بالقدر ضرورت مال نہ ہو اگرچہ اُس کے وطن میں اُس کے پاس کتنا ہی مال ہو۔ ایسے مسافر کو مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے جس سے وہ اپنے سفر کی ضروریات پوری کر لے اور وطن واپس جا سکے۔

یہاں تک ان آٹھ مصارف کا بیان پورا ہو گیا جو آیت مذکورہ میں صدقات و زکوٰۃ کے لئے بیان فرمائے گئے ہیں۔ اب کچھ ایسے سائل بیان کرنے جاتے ہیں جن کا تعلق ان تمام مصارف سے یکساں ہے۔

مسئلہ مکملیک

جمہور فقہاء اس پرتفق نہیں کہ زکوٰۃ کے معینہ آٹھ مصارف میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ ان مصارف میں سے کسی مستحق کو مال زکوٰۃ پر مالکانہ قبضہ دیدیا جائے۔ بغیر مالکانہ قبضہ دتے اگر کوئی مال انھیں لوگوں کے فائدے کے لئے خرچ کر دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے آئمہ اولیعہ اور جمہور فقہاء امت اس پر متفق ہیں کہ رقم زکوٰۃ کو مساجد یا مدارس یا شفا خانے، یتیم خانے کی تعمیر پر یا اُن کی دوسرا ضروری ضروریات میں صرف کرتا جائز نہیں۔ اگرچہ ان تمام چیزوں سے فائدہ اُن فقراء اور دوسرے حضرات کو پہنچتا ہے جو مصرف زکوٰۃ ہیں مگر ان کا مالکانہ قبضہ ان چیزوں پر نہ ہونے کے عین پر کوڈا اس سے ادا نہیں ہوتی۔ البتہ یتیم خانوں میں اگر یتیموں کو کھانا کپڑا وغیرہ مالکانہ حبیثیت سے دیا جاتا ہے تو صرف اس خرچ کی حد تک رقم زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شفا خانوں میں جو دوا

حا جمیلہ غرباً کو ما لکانہ حیثیت سے دیدی جائے اس کی قیمت رقم زکوٰۃ
میں محسوب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فقہاء مت کی تصریحات ہیں کہ لا وارث
میت کا کفن رقم زکوٰۃ میں لگایا جا سکتا ہے بلکہ میت میں مالک ہونے
کی صلاحیت نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رقم زکوٰۃ کسی غریب مستحق کو دیدی
جائے اور وہ اپنی مرثی اور خوشی سے اس رقم کو لا وارث میت کے کفن
پر خرچ کر دے۔ اسی طرح اسی میت کے ذمہ قرض ہے تو اس قرض کو
رقم زکوٰۃ سے براہ راست ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس کے وارث
غیرب مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو ما لکانہ طور سے دیا جا سکتا ہے وہ اس
رقم کے مالک ہو کر اپنی رضامندی کے ساتھ اس رقم سے میت کا قرض
ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رفاه عام کے سب کام جیسے کنوں یا پل یا
ستک وغیرہ کی تعمیر اگرچہ انکا فائدہ مستحقین زکوٰۃ کو بھی پہنچتا ہے مگر انکا مالک
قبضہ نہ ہونے کے سبب اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی ان مسائل میں چاروں
امام محتہد۔ ابوحنیفہ۔ شافعی۔ مالک احمد ابن حنبل رحمہم اللہ اور یہود فقہاء مت
متفق ہیں شمس الائمه خسروی نے اس مسئلہ کو امام محمد کی کتابوں کی شرح بیسوٹ اور
شرح سیرین پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور فقہاء شافعیہ ما لکیہ
جنابہ کی عام کتابوں میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔

فقہیہ شافعی امام ابو عینیہ نے کتابہ الاموال میں فرمایا کہ میت کی طرف سے
اس کے قرض کی ادائیگی یا اس کے کش و دفن کے اخراجات میں اور مساجد کی تعمیر
میں نہ کھودنے والی زکوٰۃ خرچ کرنا بجا نہ ہیں۔ کیونکہ مفہوم ثوابی
اور تمام آئمہ عراق اس پر متفق ہیں کہ اس میں خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔

کیونکہ یہ ان آٹھ مصارف میں سے نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ اسی طرح فقیر ہبیلی موفق ہے مگر میں لکھا ہے کہ بجز ان مصارف کے جن کا بیان قرآن کریم میں مذکور ہے اور کسی نیک کام میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا بجا رہ نہیں جیسے مساجد یا پلوں اور سبائی کی سعیلیوں کی تعمیر پاٹرکوں کی دستی یا مردوں کو کفن دینا یا ممالوں کی کھانا کھلانا وغیرہ جو ب بلا شہد موجود ہیں مگر مصارف صدقات میں داخل نہیں۔

ملک الحکماء نے بارئے میں اداگی زکوٰۃ کے لئے شرط تکمیل کیا کی یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم میں عموماً زکوٰۃ اور صدقات واجبه کا حکم لفظ ایتا کے ساتھ ہے یا کیا ہے۔ اقاموا الصلوٰۃ و آتُوا الزکوٰۃ۔ اقِمُوا الصلوٰۃ و آتُوا الزکارَ و اقِمُوا الصلوٰۃ و آتُوا الزکوٰۃ آنرا حصہ یوں حصارہ وغیرہ اور لفظ ایتا نہ لفظ میں عطا کرنے کے معنی میں آتا ہے امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمایا وکا ایتا اے الْعَطَا وَخُصُّ وَضْعُ الصَّدَقَةِ فِي الْقُرْآنِ بِالْحِكْمَةِ بِتَاءُ لِيْعَنِی ایتا کے معنی عطا و خص و ضع الصدقہ فی القرآن بِالْحِكْمَةِ بِتَاءُ لِيْعَنِی ایتا کے لفظ کے ساتھ خطا فرمانے کے ہیں۔ اور قرآن میں صدقہ واجبہ ادا کرنے کو ایتا کے لفظ کے ساتھ شخصیں فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی چیز عطا کر لیتے کا مفہوم حقیقتی بھی ہے کہ اس کو اس چیز کا مالک بنادیا جائے۔ اور عالمہ ود زکوٰۃ و صدقات کے بھی لفظ ایتا قرآن کریم میں ملک بنادیجئے ہی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مثلاً آنرا الصَّادِقَاتِ تَعْنِي دِيد و عورتوں کو ان کے مہر۔ ظاہر ہے کہ مہر کی ادائیگی جیسی تسلیم ہوتی ہے جب قسم مہر پر عورت کو مالکانہ قبولہ دید۔

و منسرے یہ کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کو صداقت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اندما اندما تاذ المذاقت اے اور صداقت کو ختم چھپا ہے۔ مثلاً ہمارے فتنہ مجاہدین کو

اس کا مالک بنادیا جائے گے۔

کسی کو کھانا کھلادینا یا رفاه عام کا امور میں خرچ کر دینا حقیقی معنی کے اعتبار سے صدقہ ہے لیکن کہلاتا۔ شیخ ابن ہبام نے فتح القدير میں فرمایا کہ حقیقت صدقہ کی یہی ہے کسی فقیر کو اس مال کا مالک بنادیا جائے۔ اسی طرح امام جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ صدقہ تخلیک کا نام ہے (احصاص ص ۱۵۲) (۲۷۰)

ادائی زکوٰۃ کے متعلق بعض اہم مسائل

مسئلہ صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو صدقات میں کرنے کے باعث میں یہ بداشت دی تھی کہ خذ ہامن اغْنِيَا وَهُمْ وَرَدَهَا فِي فَقَارُونَ هُمْ يَهْمِلُونَ صدقات مسلمانوں کے اغْنِيَا سے لیکر انہیں کے فقراء میں صرف کرو۔ اسکی بناء پر فقہاء حرم اللہ نے فرمایا ہے کہ بلا ضرورت ایک شہر یا بستی کی زکوٰۃ دو کرے شہر یا بستی میں بھی جائے بلکہ اسی شہر اور بستی کے فقراء سے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اگر کسی شخص کے عزیز قریب غریب ہیں اور وہ کسی دوسرے شہر میں ہیں تو اپنی زکوٰۃ انکے بھیج سکتا ہے کیونکہ رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں دوسرے اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح اگر کسی دوسری بستی کے لوگوں کا فقر و فاقہ اور اپنے شہر سے زیادہ ضرورت معلوم ہو تو بھی وہاں بھیجا جاسکتا ہے کیونکہ مقصد صدقات کا فقر اگلی حالت مفعع کرنا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت معاذؓ کے صدقات میں اکثر کہرے لیا کرتے تھے تاکہ فقراء ہمارے مدد و میراث طبیبہ بھیج دیں۔ (قرطبی بحولہ الدارقطنی) اگر کسی شخص خود کی شہر میں ہے مگر اس کا مال دوسرے شہر میں ہے تو جس شہر میں خود رہتا ہے اُسکا مقابلہ ہو گا کیونکہ ادائی زکوٰۃ کا مخاطب یہی شخص ہے۔ (قرطبی)

مسئلہ میں مال کی زکوٰۃ دا جیسے، اسکی ادائی کیلئے یہ بھی جائز ہے کہ اسی مال کا چالیسو ان حصہ نکال کر سختن کو دیجیے جیسے تجارتی کٹا۔ برتن۔ فرنچہر وغیرہ اور یہ بھی ہے کہ مقدار زکوٰۃ مال کی قیمت نکال کر وہ مسخر قین میں تقسیم کرے احادیث صحیحہ سے ایسا کرنا نایب ہے (قرطبی)

ادبعض آئگہ فقہیا نے فرمایا کہ اس زمانہ میں نقد قمیت ہی دینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ فقر اگی ضرورتیں مختلف اور کثیر میں نقد پسروں سے ہر ضرورت میں کام لے سکتا ہے۔ ہستم۔ اگر اپنے عزیز غریب لوگ مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو زکوٰۃ و صدقات دینا زیادہ بہتر اور دوسرا ثواب ہے ایک ثواب صدقہ کا دوسرا صلی رحمی کا اس میں پچھی ضروری ہے کہ ان کو یہ جتنا کر دے کہ صدقہ یا زکوٰۃ دے رہا ہوں کسی تخفیہ یا مدد یہ کے عنوان سے بھی دیا جاسکتا ہے تاکہ لینے والے شرافت آدمی کو اپنی خحت محسوس نہ ہو۔

ہستم۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے قول یا عمل مستحق زکوٰۃ حاصل نہ کرے اور صدقات زکوٰۃ دغیرہ کا سوال کرے کیا دیئے والوں کیلئے یہ ضروری ہے کہ اسکے حقیقی حالات کی تحقیق کریں اور بغیر اسکے صدقہ نہ دیں۔ اسکے متعلق روایات حدیث اور اقوال فقہاء میں کسی ضرورت نہیں بلکہ انکے ظاہر حال سے اگر یہ مگان غالب ہو کہ یہ شخص حقیقت میں فقیر حاصل نہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول کریم ﷺ علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ نہایت شکستہ حال آئے آپ نے ان کے لئے لوگوں سے صدقات جمع کرنے کیلئے فرمایا۔ کافی مقدار جمع ہو گئی تو وہ ان کو دیدی گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت نہیں بھی کہ ان لوگوں کے اندر وہی حالات کی تحقیق فرماتے۔ (قرطبی)

البته قرطبی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ مصارف صدقات میں سے ایک دریوں بھی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے ذمہ اتنا قرض ہے اس کی ادائیگی کیلئے مجھے زکوٰۃ کی قسم دیدی جائے تو اس قرض کا ثبوت اس سے طلب کرنا چاہیے (قرطبی) اور ذا ابری ہے کہ غارم فی سبیل اللہ ابن السبیل وغیرہ میں بھی ایسی تحقیق کر لینا دشوار نہیں

ان مصارف میں حسب موقع تحقیق کر لینا چاہئے۔

مسئلہ۔ مال زکوٰۃ اپنے عزیز دشمن داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے، مگر میاں بیوی اور والدین واولاد۔ اسپر میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے وجوہ یہ ہے کہ ان کو دینا ایک حیثیت ہے اپنے ہی پاس رکھتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے مصارف عموماً مشترک ہوتے ہیں شوہر نے اگر بیوی کو بیوی لے شوہر کو اپنی زکوٰۃ دیدی تو وہ حقیقت وہ اپنے ہی استعمال میں رہی اسی طرح والدین اور والاد کا معاملہ ہے۔ اولاد کی اولاد۔ اور دادا پر دادا کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

مسئلہ۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو اپنے گمان کے مطابق مسخن اور مصرف زکوٰۃ مجھے کر زکوٰۃ دیدی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اسی کا غلام یا کافر تھا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی دوبارہ دینا چاہئے۔ کیونکہ غلام کی ملکیت تو آقا ہی کی ملکیت ہوتی ہے۔ وہ اس کی ملک سے نکلا ہی نہیں اس لئے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اور کافر کو صدقہ قات زکوٰۃ دیدی بنا موجب ثواب نہیں۔ اس کے علاوہ اگر بعد میں یہ ثابت ہو کہ جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے وہ مالدار یا سیدھا شرمی یا اپنایا پ یا بیٹا۔ یا بیوی یا شوہر ہے تو زکوٰۃ کے اعادہ کی ضرورت نہیں کیونکہ رقم زکوٰۃ اس کی ملک سے نکل سر محل ثواب میں پہنچ چکی۔ یہ اور یہ مصرف میں جو غلطی کسی اندر صیرے یا مبالغہ کی وجہ سے ہو گئی وہ معاف ہے۔ (در محظا) آیت صدقات کی تفسیر اور اس کے متعلقہ مسائل کی تفصیل بقدر ضرورت پوری ہو گئی سول اللہ الحمد اولہ و آخر کو وعلہ بنتہ وسیہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عَلَى الْمُدْعَى

﴿تَبَرُّوا الصَّلَاةَ وَآتُو النَّكَوَةَ﴾



مُصنَّفہ

مولانا محمد ریفع صاحب عثمانی مدرس دارالعلوم کراچی

بتصدیق

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

ماہش

ادارہ المعارف

سینیٹر چوک کراچی نمبر ۵

طبع سعیدی قران محل کراچی

۱

لصداقی و تقریط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احقر نے رسالہ احکام زکوٰۃ مولفہ برخوردار عزیز مولوی محمد فیض سلم،
 جو میری ہی فرماںش پر لکھا گیا ہے پورا دیکھا ماشا، اللہ مسائل سب صحیح
 مستند کتابوں کے حوالہ سے سلیمانی عاصم فہم زبان میں جمع کردئے ہیں
 اس میں زکوٰۃ کے ضروری احکام و مسائل پوری تفصیل سے آئئے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور مؤلف سلمہ کے علم، عمل
 اور عمر میں ترقیات عطا فرمادیں۔ آمین

بندہ محمد شفیع عفان اللہ عنہ

ام رشیدان شمسہ ص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادَةِ الَّذِينَ أَصْطَفَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادَةِ الَّذِينَ أَصْطَفَ

زکوٰۃ کے احکام و مسائل کی ضرورت اہمیت متحاج بیان نہیں خصوصاً
 اس زمانہ میں کہ دین اور علم دین سے ناواقفیت اور اس کے ساتھ
 بے پرواٹی طوفان کی طرح بڑھ رہی ہے۔ بعض حضرات نے والد محترم
 حضرت مولانا منشی محمد شفیع صاحب مدظلہ سے درخواست کی کہ سہل اور دو
 زبان میں احکام زکوٰۃ لکھ کر شائع کئے جاویں۔ محمد وح کو ہجوم مشاغل کی
 وجہ سے فرستہ نہ تھی اس لئے اس ناکارہ کو اس کام کے لئے مامور
 فرمایا۔ اپنی علمی بےائیگی کے ساتھ دارالعلوم میں درس و تدریس
 کی خدمت اور سالانہ امتحان کا زمانہ تھا۔ مگر تمیل ارشاد کو سرمایہ
 سعادت سمجھ کر جو کچھ ہونہ کا لکھ کر پیش کر دیا۔ اور موصوف کی نظر و حصار
 کے بعد اب اس کو شائع کیا جاتا ہے۔ مسائل سختے میں اس بات کا انتہام
 کیا ہے کہ زبان زیادہ سے زیادہ سہل اور عام فہم ہو۔ اور اس کے لئے جگہ جگہ
 الفاظ کی خوبصورتی کو بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کم پڑھتے تھے
 اشخاص بھی یہ مسائل پاسانی سمجھ سکیں۔ سبنا تقبیل منا انک انت لممیع العلیم۔

بِنْدَلَهُ مُحَمَّدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

مدرس دارالعلوم کراچی

اصطلاحات و تعریفات

قرآن و حدیث میں زکوٰۃ و عمدقات کے متعلق چند الفاظ پار بار آئے ہیں۔ زکوٰۃ۔ صدقہ۔ النفاق فی سبیل اللہ۔ الظعام۔ اسی طرح کتب فقہ میں زکوٰۃ یعنی خمس۔ نصاب وغیرہ کے اصطلاحی الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ شروع میں ان کی تعریف اور معنی لمحے جاتے ہیں تاکہ متعلقہ مسائل کے بحث میں سہولت ہو۔

زکوٰۃ اس کے لغوی معنی بڑھنے اور پاک ہونے کے ہیں۔ مگر بقول امام راغب اصفہانی ہر بڑھوتری کو زکوٰۃ نہیں کہا جاتا۔ بلکہ ایسی معنوی زیادتی کو زکوٰۃ کہتے ہیں جو من جانب اللہ بطور برکت کے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر طہارت اور پاکی کو زکوٰۃ نہیں کہتے بلکہ اس باطنی اور معنوی پاکی کو کہتے ہیں جو من جانب اللہ کسی کو حاصل ہو، نسان اختیاری طور پر اپنے بدن یا کپڑے وغیرہ کو پاک کرے وہ زکوٰۃ نہیں کہلاتی۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اُس حصہ مال کو کہا جاتا ہے جو فی سبیل اللہ بطور فربینہ مالیہ کے نکالا جائے۔ اس کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حسب تصریح قرآن و حدیث زکوٰۃ نکالنا مال میں برکست و زیادتی کا سبب ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ زکوٰۃ نکالنے

سے انسان کو باطنی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس حصہ مال کو کہا جاتا ہے جس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان پر فرض کیا گیا ہے۔ کتب فقہ میں بھی زکوٰۃ اسی معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

صدقہ یہ لفظ صدق سے مانوڑ ہے جس کے معنی تج اور سچائی کے ہیں۔ صدقہ اُس مال کو کہا جاتا ہے جو سچے دل سے خالص رغما، الہی کے لئے خرچ کیا جائے۔ یہ لفظ قرآن و سنت کی اصطلاح میں عام ہے۔ صدقہ واجبہ زکوٰۃ عشر۔ صدقہ الفطر کو بھی صدقہ کہا جاسکتا ہے اور نفلی طور پر بغرض ثواب کچھ مزید خرچ کیا جائے اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں فرض و نفل دونوں قسم کے لئے لفظ صدقہ کا استعمال بکثرت مسرووف ہے۔ کتب فقہ میں بھی اسی طرح یہ لفظ عام معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

پلکہ حدیث میں تو اس کا استعمال اس سے بھی زیادہ عام معنی میں ہر نیک کام کے لئے کیا گیا ہے کسی سے ہنس کر بولنے کو کسی کا بوجھا کھوا دینے وغیرہ کو بھی حدیث میں صدقہ فرمایا ہے۔

خیرات یہ لفظ جس معنی کے لئے اُردو زبان میں بولا جاتا ہے قرآن و حدیث میں اس معنی کے لئے اس کا استعمال نہیں ہوا۔ ہمارے یون و محاورہ میں افظع خیرات بھی صدقات ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے جو فرض و نفل ہر طرح کے صدقات پر حاوی ہے۔

النفاق واطعام۔ النفاق کے لفظی معنی خرج کرنے کے اور اطعام کے معنی کھانا کھلانے کے ہیں۔ قرآن کریم میں پہ لفظ بھی صدقہ کی طرح عام معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فرض واجب کے لئے بھی اور نفل و تبرع کیلئے بھی عشرہ فقہ میں زرعی زمینوں کی پیداوار پر جو شرعی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو عشرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تجارتی اموال کی زکوٰۃ جو راستوں پر چوکیاں بٹھا کر دصوں کی جاتی ہے اس کو بھی عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس کو زکوٰۃ کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

خمس و پانچواں حصہ مال کا ہے جو مال غنیمت میں سے بیت المال کے لئے نکلا جائے یا معاون یعنی مختلف قسم کی کانوں سے نکلنے والی اشیا کا پانچواں حصہ بطور حق فصراء بیت المال میں جمع کیا جائے۔

نصاب اصطلاح فقہ میں اس مقدار مال کو کہا جاتا ہے جس کے مالک کو عرف شرع میں مالدار سمجھا جاتا ہے جیسے سارٹھے باول تولہ چاندی یا سارٹھے سات تولہ سونا، وغیرہ۔

رکوہ کی فرضیت و اہمیت

اسلام کے پانچ اركان میں سے ایک رکن زکوہ بھی ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا زکوہ کو صلوٰۃ کے ساتھ لگایا ہے۔ اقیمو الصلوٰۃ و اتوا الزکوہ۔ داقا موالصلوٰۃ و اتوالزکوہ داقا موالصلوٰۃ وابتداء الزکوہ وغیرہ سارے قرآن میں پہلے ہوئے الفاظ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فرائض میں سب سے مقدم نماز اور اس کے بعد زکوہ ہے۔

بنصریح قرآن و سنت و اجماع امت جس شخص میں شرائط زکوہ پائی جائیں زکوہ اُس پر فرغل ہے جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ اور جو فرض ہونا تسلیم کرنے کے باوجود زکوہ اڑانہ کرے وہ سخت گناہ گار فاسق ہے۔

پانچ زکوہ

از دئے قرآن و سنت صحیح یہ ہے کہ زکوہ کا فرضیہ مسلمانوں پر کمرمہ ہی میں نماز کے ساتھ عائد ہو چکا تھا جیسا کہ مکی سورثوں میں زکوہ کے احکام سے ثابت ہوتا ہے اور امام تقییر ابن کثیر وغیرہ نے اسکی تصریح فرمائی ہے۔ البتہ نصاب پر زکوہ اور مقدارِ زکوہ اور مدد و مارفہ زکوہ کے

تعینات اور ان کی وصولیاً بی کا سرکاری انتظام مدنیہ طبیہ میں پہنچنے
کے بعد تدریجیاً ہوا ہے۔ نہ صہ میں صدقۃ الغطر راجب کیا گیا۔ اور
اس کے بعد سرکاری طور پر زکوٰۃ دعشر وغیرہ وصول کرنے کے لئے
مدنیہ کی اسلامی حکومت کی طرف سے عمال مقرر ہوئے اور اس طرح
کے تمام اموال صدقہ بیت المال میں جمع کر کے فقراء و مساکین پر صرف
کرنے کا اہتمام ہوا۔

زکوٰۃ نماز کی طرح ایک مالی عبادت ہے۔ جس کا آدھر نامہ مالدار
کے ذمہ ہر حال میں ضروری ہے۔ کوئی اسلامی حکومت اور اسلامی
بیت المال اس کو وصول کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ پھر اپنیا کی تمام
شریعتوں میں بھی نماز کی طرح زکوٰۃ کی پابندی فرض نہیٰ۔ مگر ان پھر
شریعتوں میں مال زکوٰۃ کو فقراء و مساکین کی ضرورتوں میں خرچ کرنے
کی اجازت نہیٰ بلکہ اس کو کسی جگہ میں رکھ دیا جانا لئا جس کو آسمانی
بھلی آگر جلا دیتی نہیٰ یہی قبولیت زکوٰۃ کی علامت نہیٰ۔

امّت بر حوصلے کے لئے الشّاتحاء لائے اپنے فضل سے اس کی
اجازت دیدی کہ اس مال کو مسلمانوں کے فقراء و مساکین پر خرچ کیا
جائے۔ امّت کے فقراء و مساکین کی مشکلات کو حل کرنے کا یہ ایسا
بہترین طریقہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کو صحیح طور پر نکالا جائے اور اس کے صحیح
مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے تو لبقوں بعض اہل بورپہ کے
ایک مسلمان بھی ننگا بھسوکا نہیں رہ سکتا۔

زکوٰۃ کے معاملہ میں خفہت

مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل عام جہالت و خفہت کی بنا پر بہت سے مسلمان توزیع زکوٰۃ نکالتے ہیں نہیں اور جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ صرف زکوٰۃ کا نکالنا کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے عرف زکوٰۃ اپنی حبیب سے نکالنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کو مستحقین تک پہنچانے اور ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآنی ارشاد الوالز کو زکوٰۃ کے معنی زکوٰۃ نکالنے کے نہیں بلکہ ادا کرنے کے ہیں۔ اور ادا کرنا اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا حق ہے اس کو پہنچایا جائے۔ مغض اپنے پاس سے نکال دینے اور کسی کو دیدنے سے حق ادا نہیں ہوتا جیسا کہ دنیو می قرضوں میں ہر شخص جانتا ہے جو قرض کسی کا کسی کے ذمہ ہے وہ مغض حبیب سے نکال دینے پر ادا نہیں ہو جاتا جب تک قرضخواہ تک پہنچا کر اس کا مالکانہ قبضہ نہ کر دیا جائے۔ قرض سے سبکدوشی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک زکوٰۃ۔ مستحقین زکوٰۃ کو نہ پہنچائی جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس میں عام طور پر زکوٰۃ نکالنے والے مسلمان بڑی خفہت کے شکار ہیں کہ مستحقین کی تلاش و تحقیق کے بغیر قسم زکوٰۃ کسی کو دیکر آپ کو سبکدوش سمجھ لیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر مستحق لوگ زکوٰۃ و صدقات پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اور مستحقین انہیں اور صیانت کا شکار رہتے ہیں۔

زکوٰۃ ادائہ کرنے کا عذاب

قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ :-

ترجمہ - جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔
(یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے) سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنادیجئے جو کہ اس روز واقع ہو گی جبکہ اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں پہلے پیاپی جائے گا پھر اس

(سو نے چاندی سے ان لوگوں کی پیشانیوں ان کی کروڑوں، اور ان کی پشتیوں کو دارغ دیا جائے گا (اور یہ جتنا لایا جائے گا) کہ یہ دہی ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا۔ بس اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو یہ)

۲ - رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :-

لَا هَامِنْهُ قُوْرَالنَّكُوْتَةُ الْأَبْتَلَاهُمْ جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی اللہ تعالیٰ اُسے قحط سالی (یعنی ضروریات نہیں) اُنہے یا سین (جمع الفوائد ج ۱ ص ۳۲)

کی گرانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

۳ - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے بہ
من اتاہ اللہ مالا فسلو جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے
لیوڈز کونٹھ متل لئے مالہ یو ص زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے
القیامۃ شجاعاً اقرع لہ زیمیان دن اس کے مال کو بڑا ذہر ملائی گنجای
بیطوقۃ یوم القیامۃ ثریا خذ بھن سانپ سانپ بنادیا جائے گا۔ وہ سانپ
یعنی بشد قید لثرب قول انما اللہ زاکنڑ ۷ اس کی گردن میں پیٹھ جائے گا
د بخاری شریف (ص ۱۸۸) پھر اس کے دلوں جبڑے نوچ گا
اور کہے گا، میں ہی تیر امال ہوں۔ میں ہی تیر اخزانہ ہوں۔

۴ - آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے
اُترتے ہیں ایک پر رُعاکر تاہے کے اے اللہ سخنی کو اس کے مال کا برل
خطا فرمادُو سر ادُعا کرتا ہے کہ اے اللہ سخنی کو ہلاکت نعییب کر (بخاری وسلم)
۵ - ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خورتوں کے
ہاتھ میں سونے کے لگن دیکھے۔ تو ان سے پوچھا کہ ان کی زکوٰۃ دیتی
ہویا نہیں؟ آنہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ "کیا تم کو
یہ پسند ہے کہ اس کے بدلے میں تم کو آگ کے لگن پہنائے جائیں؟"
آنہوں نے عرض کیا "نہیں" آپ نے فرمایا تو اس کی زکوٰۃ دیا کرو (ترمذی)
۶ - قیامت کے دن جو ساتھ آدمی اللہ کے ساتھ میں ہوں، گے
ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس شخص کو بھی بیان فرمایا ہے جو ایسا چھپا کر صدقہ دے کے اسکے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو (بخاری)

زکوٰۃ کس قسم کے مال پر فرض ہے

پہلے بات سمجھ لیتی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر مالی فرض بہت کم سے کم دالا ہے اول توہر مال پر زکوٰۃ نہیں بلکہ صرف اُس مال پر ہے جو عادۃ برداشت ہے جیسے مال تجارت یا مولیشی یا سونا چاندی۔ کیونکہ سونے چاندی کو اسلام نے ذریعہ تجارت ہی قرار دیا ہے خواہ کوئی اس کو زیور بنا کر رکھے۔ یا سونے چاندی کے ٹکڑے بند کر کے رکھے۔ مگر شرعاً وہ مال تجارت ہی ہے۔ اس لئے سونے چاندی پر خواہ وہ کسی صورت میں ہو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اموال کے علاوہ اموال کی ان تین قسموں کے علاوہ مکان و کان برث فریض ہے اور دوسرے گھر یو سامان۔ ملوں اور کارخانوں کی مشینیزی جو اہر خواہ کتنی قیمت کے ہوں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہال ان میں سے کوئی چیز فروخت کرنے کے قصد سے خریدی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہئے کہ مال کی مذکورہ تین قسموں میں بھی مال کا مالک ہونتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہو جاتی بلکہ سال بھر تک اس میں جتنا جی چاہے جہاں چاہے بخراج کرتا ہے آخر سال میں کھانے پینے پرستہ اور تنام اخراجات ضروری یا غیر ضروری چشمہ مال بن کر رہے اور اس پر حصر

چالیسوال حصہ مال کا بطور زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔

* اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ انکم ٹیکس کی طرح آمدنی پر نہیں بلکہ اعلیٰ سرمایہ پر ہے۔ لیکن سرمایہ میں سے خرچ کرنے پر انکم ٹیکس کے قواعد کی طرح کوئی پابندی نہیں۔ اگر کوئی شخص سارا مال سال بھر میں خرچ کر ڈالے تو اس پر کوئی زکوٰۃ عائد نہیں ہوئی۔

ایک چوتھی قسم مال زکوٰۃ کی زرعی زمین اور باغات کی پیداوار بھی ہے مگر اس کو فقیرہا کی اصطلاح میں عُشر کہا جاتا ہے۔ اس لئے اس کو احکام زکوٰۃ کے بعد عُشر ہی کے عنوان سے لکھا جائے گا۔ اور اموال زکوٰۃ کی مذکورہ تین قسموں میں سے چونکہ مولیٰشی کی زکوٰۃ کے معاملات خاص خاص لوگوں کو پیش آتے ہیں اس لئے اس مختصر رسالہ میں اسکی تفصیل دینے کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔ اس میں صرف مال تجارت اور سونے چاندی اور روپیے کے احکام اور پھر عُشر اراضی کے احکام بیان ہوں گے۔ یہاں یہ بھی سمجھد لینا چاہیے کہ جن اموال پر شرعاً اسلام نے زکوٰۃ عائد کی ہے ان میں بھی مطلقاً ہر شخص پر ہر حال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ باکہ اس کے لئے مندرجہ ذیل شرائط میں جہاں ان شرائط میں سے کوئی شرط معدوم ہوگی دہلی زکوٰۃ فرض نہ رہے گی۔

مشراطہ زکوٰۃ

(۱) زکوٰۃ دہندرہ کا مسلمان ہونا۔ کافر پر زکوٰۃ نہیں (کمانی عامۃ المتن)

- (۲) بالغ ہونا۔ نابالغ بچوں کی ملکیت میں کتنا ہی مال ہوان پر
یا ان کے اولیا ر (سرپرستوں) پر اس کی زکوٰۃ نہیں (ہدایتہ)
- (۳) عاقل ہونا۔ مجنون کے مال پر زکوٰۃ نہیں۔ جبکہ اس کا جنون
سال بھر مسلسل رہے (در مختار دشامی)
- (۴) آزاد ہونا۔ چنانچہ در خرید غلام پر زکوٰۃ نہیں (کافی عامۃ المثون)
- (۵) اس مال کا مکمل مالک ہونا جس شخص کے قبضہ میں کوئی مال ہے۔ مگر
وہ اس کا مالک نہیں۔ اس پر زکوٰۃ نہیں۔ (در مختار ح ۲)
- (۶) مال کا بقدر نصاب ہونا۔ نصاب سے کم مال پر زکوٰۃ نہیں
نصاب کی تفصیل آگے آتی ہے۔ (در مختار ح ۲)
- (۷) اس مال کا ضروریات اصلیہ سے زائد ہونا۔ اس لئے جو حیریں
انسان کی ضروریات زندگی میں داخل ہیں جیسے رہنے کا مکان۔
پہنچنے کے کرٹے۔ برتنے کے برتن یا فرنچر یا سواری کی موڑ گاڑی وغیرہ۔
ان پر زکوٰۃ نہیں (کافی عامۃ المثون)
- (۸) اس مال پر پورا ایک سال گزر جانا۔ سال بھر گزرنے سے
پہلے کسی مال پر زکوٰۃ نہیں زہادتی (ج ۱)
- (۹) مال کا نامی یعنی برٹھنے والا ہونا۔ جیسے تجارتی مال یا سونا
چاندی یا مویشی وغیرہ اور جو مال نامی نہیں ہے اگرچہ ضرورت سے
زاد بھی ہوا اس پر زکوٰۃ نہیں جیسے ایک سے زائد مکان یا موڑ یا غیرہ
ضرورتی برتن اور فرنچر دغیرہ۔

یہ نام شرائع تفصیل کے ساتھ میراث الصنائع اور فقہ کی عام کتب میں مذکور ہیں اب ہر قسم کے مال کی زکوٰۃ کے احکام علیحدہ تفصیل کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔

سو نے چاندی کی زکوٰۃ

۱۔ سونے کا نصاب زکوٰۃ ساری ٹھیکانے سات تولہ ہے اور چاندی کا ساری ٹھیکانے سات تولہ ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس ساری ٹھیکانے سات تولہ چاندی، یا ساری ٹھیکانے سات تولہ سونا ہو اور ایک سال تک باقی رہے تو سال گذرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور اگر اس سے کم ہوتا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اگر اس سے زائد ہو، تب بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ (ہدایتہ رج ۱)

۲۔ چاندی یا سونے کے زیور، برتن اور سچا گوٹہ کھپڑے سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چلہے یہ زیور وغیرہ استعمال میں رہتے ہوں یا پیکار رکھتے ہوں۔ غرض یہ کہ سونے یا چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہے البتہ اگر مقدارِ نصاب سے کم ہوتا تو زکوٰۃ غرض نہیں (ہدایتہ رج ۱)

۳۔ سونا چاندی اگر خالص نہ ہو بلکہ اُس میں کچھ کھوٹ ملا ہو تو

عوٰہ سونے اور چاندی کے مذکورہ وزن کی علمی تحقیق مطلوب ہوتا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ کی سیے تظیرِ تصنیف "اوزان شرعیہ" ملاحظہ فرمائیں۔
لئے کاپٹہ :- ادارہ امامیت مارکیٹ - اشہد مژاہی میٹھا مارکیٹ بیلہ جوک .. ۳ اج ۱۴۴۵

غالب جزو کا اعتبار ہو گا۔ سونا چاندی غالب ہوتا ہو سونا چاندی سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ فرض ہو گی، اور اگر کھوٹ زیادہ ہو، مثلاً ایک تولہ میں سماشہ سونا یا چاندی ہو اور نوماشہ کھوٹ ہوتا ہو سونا یا چاندی نہیں سمجھا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ بجز اس صورت کے فرض نہ ہو گی کہ یہ مال "تجارت" کے طور پر کھا ہو۔ گلٹ کے سکے روپیہ اور ریز گاری پر بھی اسی لئے زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ لیعن دین ہی کے لئے ہوتے ہیں۔

۴- کسی کے پاس نہ تو پوری مقدار سونے کی ہے اور نہ پوری مقدار چاندی کی، بلکہ کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے تو اگر دونوں کی قیمت ملا کر ساری ہے باون تولہ چاندی کی برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر دونوں چیزیں اتنی کم ہیں کہ دونوں کی قیمت ملا کر بھی مقدار الحساب کی برابر نہیں ہوتی تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اگر سونے اور چاندی دونوں کی مقدار پوری پوری ہے تو قیمت لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ چاندی کی زکوٰۃ اس کا حساب کر کے علیحدہ دیں۔ (بدایۃ، و عامة المتون)

۵- کسی کے پاس سوتولہ چاندی رکھی تھی پھر سال گزرنے سے پہلے دو چار تولہ یا لذ دسٹ تولہ سونا بھی مل گیا تو اس کا حساب علیحدہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس چاندی کے ساتھ ہی ملا کر اس کا بھی حساب ہو گا، چنانچہ جب اس چاندی کا سال پورا ہو گا تو یہ سمجھا جائے گا

بحدیں ملے ہوئے سونے کا بھی سال پورا ہو گیا، چنانچہ اس پورے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ فرض ہو گی۔ (ہدایتہ ج ۱)

۶۔ کسی کے پاس سو تو لہ چاندی رکھی تھی، پھر سال پورا ہونے سے پہلے دو چار تو لمبے یا پچاس ساٹھ تو لہ چاندی اور میل گسی تو بہاں بھی یہی سمجھا جائے گا کہ اس پوری چاندی پر سال گذر گیا، چنانچہ اس پوری چاندی کی زکوٰۃ فرض ہو گی۔ بحدیں ملنے والی چاندی کا سال علیحدہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ (ہدایتہ ج اول)

خلاصہ یہ ہے کہ درمیان سال میں مال کے گھنٹے یا پڑھنے کا زکوٰۃ پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ سال کے ختم پر ختنا مال موجود ہو گا اس پورے مال پر زکوٰۃ آئے گی۔ فرض یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس سال بھر تک صرف ایک ہزار روپیہ تھا یا اس کی قیمت کا سونا چاندی گر سال پورا ہونے سے چند دن پہلے اس کو نو ہزار روپیہ یا اس قیمت کا سونا چاندی مل گیا تو زکوٰۃ پورے دس ہزار کی ادا کرنا ہو گی۔

۷۔ پہنچنے کے پڑے خواہ کتنے ہی زیادہ اور قیمتی ہوں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن اگر ان پر سچا کام ہے تو اس کا میں تین حصتی چاندی نکل سکتی ہے اس کا اندازہ کر کے مال زکوٰۃ میں شامل کرنا اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرعی ہو گا مثلاً ایک شخص کے پاس سو تو لہ چاندی ہے اور دس تو لہ سچے کام میں لگی ہو کی چاندی ہے تو ایک شودس تو لہ چاندی کی زکوٰۃ فرض ہو گی۔ یادو لولہ سیرنا ہے اور دس تو لہ چاندی کی زکوٰۃ

تولد تو لہ سونے کی قیمت سے جاتنی چاندی خریدی جاسکتی ہے۔ مثلًاً آجکل کے زرخ کے اعتبار سے اس کی ایک سو^{۱۴۵} چالیس تولہ چاندی آئے تو اس میں یہ دس تولہ چاندی کے کام کے شامل کر کے ڈیر ڈھوندہ^{۱۵۰} تولہ چاندی کی زکوٰۃ فرض ہو گی۔ (در مختار و شامی)

نقدرو پیہ کی زکوٰۃ

نقدرو پیہ چاہے چاندی کا ہو یا گلٹ وغیرہ کا اس پر باتفاق نظریہ از کوٰۃ فرض ہے۔ کیونکہ یعنی عرفی ہے اور لین دین ہی کے لئے اس کی وجہ ہے۔ (شامی)

۱۔ اگر کسی کے پاس ساری چاندی یا ساری سات تولہ سونے کی قیمت کے برابر نقدرو پیہ موجود ہو (چاہے سونا چاندی بالکل نہ ہو) تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ کیونکہ نقدرو پیہ بھی سونے چاندی کے حکم میں ہے۔ (شامی)

۲۔ مثلًاً چاندی سوا دو روپے تولہ ہے، تو اگر کسی کے پاس ایک سوا ٹھارہ روپے پارہ نئے پیسے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ پہ معاشرے چاندی کی قیمت کی برابر ہے۔

۳۔ آجکل چاندی کی قیمت دو روپے سے آنے تولہ ہے اور اس میں کمی بیشی مختلف اوقات میں ہوتی رہتی ہے۔ زکوٰۃ نکالتے وقت چاندی کا بھاڑ معلوم کر کے حساب کر لینا چاہیئے۔ ۷۴۷ مطابق ۱۹۶۲ء

۲۔ کسی کے پاس کچھ نقد روپیہ کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے۔ لیکن علیحدہ علیحدہ ان میں سے کوئی بھی مقدار نصاہب کو نہیں پہنچتا تو اس سوئے اور چاندی کی قیمت دیکھی جائے اگر اس سونے اور چاندی کی قیمت اور وہ نقد روپیہ ملا کر ایک سوا ٹھارہ روپے اور بارہ ستر پیسے ہو جائیں تو زکوٰۃ فرغن ہے ورنہ نہیں۔ (درختار)

۳۔ مثلاً کسی زمانہ میں سونا ایک سو نیس روپے تو لمہ اور چاندی سوا دو روپے تو لمہ ہو تو اگر کسی کے پاس حال کے ختم پر ایک تو لمہ سونا اور یا تین روپے نقدم ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ ایک تو لمہ سونا اکیسو نیس روپے کا ہوا، اور وہ پانچ روپے طاگرا ایک سو نیس روپے ہو گئے، اور یہ رقم ساری ہے باون تو لمہ چاندی کی قیمت سے بہت زائد ہے کیونکہ سماں ہے باون تو لمہ چاندی کی قیمت تو سو اور روپے تو لمہ کے حساب سے صرف ایک سوا ٹھارہ روپے بارہ پیسے ہوں گے (درختار)

۴۔ البته اگر صرف ایک تو لمہ سونا ہو اور اس کے ساتھ روپے یا چاندی بالکل نہوں تو زکوٰۃ فرض نہیں (جیسا کہ عام کتب فقہ میں مذکور ہے)

۵۔ کسی کے پاس تین سور روپے رکھے تھے، پھر سال پورا ہونے سے پہلے دو سور روپے اور مل گئے تو ان دو سور روپے کا حساب علیحدہ نہیں کیا جائے گا بلکہ جب ان تین سور روپے کا سال پورا ہو گا تو پورے پانچ سور روپے کی زکوٰۃ فرض ہو گی۔ اور یہ تجھا جائے گا کہ

پُورے پانچ سو روپے پر سال گذر گیا (ہدایت)

مال تجارت کی زکوٰۃ

مال تجارت وہ مال ہے جو فروخت کرنے کی نیت سے لیا ہو۔
اس کا نصاب بھی وہی ہے جو نقد روپے کا نصاب ہے، یعنی مال
کی قیمت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونے
کی برابریا اس سے زائد ہو جائے تو سال گذرنے پر اس کی زکوٰۃ
چالیسواں حصہ دینا فرض ہے (در مختار و شامی)

۱۔ سونا چاندی اور نقد روپے کے علاوہ جتنی چیزوں ہیں مثلاً
پچھے موتیوں کا ہار، لوٹھا تانبہ، پیتل، رانگ، گلیٹ وغیرہ یا ان
چیزوں کے بنے ہوئے برتن وغیرہ، یا کپڑے جو تے، فریچر، یا کوئی اور
سامان اس کا حکم یہ ہے کہ یا اگر تجارت کے واسطے یا ہے تو مقدار
نصاب ہونے اور سال گذرنے پر اس کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔
اور اگر تجارت کے لئے نہیں لیا تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ خواہ وہ کتنا ہی
بیش قیمت اور کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے ضرورت رکھا ہو۔

(در مختار ج ۲ و شامی)

۲۔ اگر سونا چاندی کے علاوہ کوئی اور سامان اپنے استعمال
کے واسطے لیا تھا پھر تجارت کا اور اس کو فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا
مگر فروخت نہیں ہوا اور سال گذر گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ کیونکہ نیت

وہ مخبر ہے جو مال لیتے وقت ہو، اور یہاں مال لیتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی اس لئے یہ مال تجارت نہیں۔ ہاں جب اس کی فروخت شروع کر دے اس وقت سے تجارتی مال قرار پائے گا۔ اور اس وقت کے بعد اگر سال بھر یہ مال رہا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گی۔ (ہدایت)

۳۔ دوکان میں جو الماریاں وغیرہ سامان رکھنے کے لئے رکھی ہوں، یا فریضہ غیرہ استعمال کے لئے رکھا ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کیوں کہ یہ مال تجارت نہیں۔ البته اگر کوئی فریضہ ہی کی تجارت کرتا ہو یعنی یہ فریضہ تجارت کی نیت سے ہی خریدا یا بنوا�ا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیونکہ اس صورت میں یہ مال مال تجارت ہے۔

(درختارج ۲ و شامی)

۴۔ اگر کسی کے پاس کئی مکان ہوں (اور ان کو کرایہ پر حاصل کیا ہو تو ان مکانوں کی قیمت پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، خواہ وہ کتنی ہی قیمت کے ہوں۔ البته ان کے کرایہ سے حاصل شدہ رقم جس قدر سال بھر کے ختم تک باقی رہے گی اس کی زکوٰۃ نقدر و پیچے کے حساب سے ادا کرنا ضروری ہو گا۔ اسی طرح اگر کسی نے مثلاً ایک روہزار بیا زائد روپے کے برتن فریضہ شاہیا نے، یا سائکلیں وغیرہ یا کوئی اور سامان کرایہ پر دینے کے لئے خریدا اور کرایہ پر حاصل کیا رہا تو ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ کیونکہ کرایہ پر حاصل ہستے مال مال تجارت نہیں بتا۔

اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ البته کرایہ سے جو رد پیہ حاصل ہوگا اُس کا دہی حکم ہے جو نقدر روپے کا ہے۔ یعنی یہ روپیہ اگر بقدر نصاب ہو، اور ایک سال گذر جائے تو اس روپے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
(ہدایتہ و قاضی خان)

۵۔ پرمنگ پریس، کارخانوں اور ملوں وغیرہ میں جو مشینیں فٹ ہوں وہ بھی مالِ تجارت ہیں، لہذا ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ البته اگر مشینیں تجارت کی نیت سے خریدی ہوں کہ ان کو فروخت کیا کریں گے تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ درزی کی پڑیے ہیں کی مشینیں، ڈرائی کلین وغیرہ کی مشینیوں کا اور ہر فرم کی مشینیوں کا بھی حکم ہے۔ (در مختار دشامی)

۶۔ کارخانے اور مل وغیرہ کی مشینیوں پر توزکوٰۃ ذض نہیں۔ لیکن ان میں جو مال تیار ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو خام مال مل میں سامان تیار کرنے کے لئے رکھا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ خام مال اور تیار شدہ مال سب کی قیمت لگا گر اس کا ڈھائی فیصد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے (در مختار دشامی)

۷۔ کسی کے پاس کچھ سونا یا چاندی، اور کچھ مال تجارت ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ نہ سونا یا چاندی بقدر نصاب ہے اور نہ مالِ تجارت بقدر نصاب ہے تو سب کو ملا کر دیجیں اگر اس مجموعہ کی قیمت ساری چھ بادن تولہ چاندی کے پر ابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی اور اگر بھر بھی

کمر ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ (ہدایت)

۸۔ ملوں اور کمپنیوں کے شیرز پر بھی ختم سال کے وقت جو قیمت شیرز کی بازار میں ہواں کے موافق زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ کمپنیوں کے شیرز کی قیمت میں چونکہ مشیری اور مکان اور فرنچر کی لاگت بھی شامل ہوتی ہے۔ جو درحقیقت زکوٰۃ سے مستثنی ہے اس لئے اگر کوئی شخص کمپنی سے دریافت کر کے جس قدر رقم اس کی مشیری اور مکان اور فرنچر دغیرہ میں لگی ہوئی ہے۔ اس کو اپنے حصے کے مطابق شیرز کی قیمت میں سے کم کر کے باقی کی زکوٰۃ دے تو یہ بھی جائز و درست ہے۔ مثلاً شیرز کی قیمت ایک سور و پیہ ہے اور تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ پانچ فیصد رقم مشیری اور مکان و کان اور اس کے فرنچر میں لگی ہوئی ہے تو شیرز کی قیمت سے پانچ کم کر کے باقی پچانوے کی زکوٰۃ فرض ہو گی (در مختار و شامی)

مقرر و فرض پر زکوٰۃ کب فرض ہے کہا جائیں؟

۱۔ کسی کے پاس دوسرا روپے ہیں اور اتنے ہی روپے کا وہ مقرر و فرض بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے وہ دوسرا روپے پوئے ہمال اُس کے پاس رکھے رہیں۔ اور اگر ڈیڑھ سور و پے کا مقرر و فرض ہے تو پھر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ کیونکہ ڈیڑھ سور و پے فرض کے ہونے تو صرف پچاس روپے ضرورت سے زائد بچے۔ اور پچاس روپے

اجمل سارے ہے بادن تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہیں۔

(ہدایت ح اول)

۲۔ اگر کسی کے پاس پانچ سور و پے ہیں۔ اور دو سور و پے کا وہ فرض دار ہے تو اس پر تین سور و پے کی زکوٰۃ فرض ہے۔

(ہدایت ح اول)

فرض حواہ پر زکوٰۃ کب فرض ہے کب نہیں؟

۱۔ اگر آپ کا مال کسی کے ذمہ فرض ہے تو اس مال کی زکوٰۃ بھی آپ پر فرض ہے۔ بشرطیکہ قرضدار اس کا اقرار کرتا ہوا اور ادا کرنیکا وعدہ کرتا ہوا۔ یا اگر وہ انکار کرے تو آپ کے پاس کوئی شہارت یا دستاویزی ثبوت اپسام موجود ہو جس کے ذریعہ آپ پر ذریعہ عدالت دصول کر سکتے ہوں۔ لیکن فرض کی تین شہیں ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ نقدر و پیہ یا سونا چاندی کسی کو فرض دیا۔ یا تجارت کا مال کسی کو فروخت کیا اخفا اور اس کی قیمت اُس کے ذمہ باقی ہے۔ پھر یہ مال ایک سال یا دو تین سال کے بعد دصول ہوا۔ ایسے فرض کو فقہا کی اصطلاح میں دین قوی کہا جاتا ہے ایسا فرض اگر بقدر نصاب یعنی سارے ہے بادن تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو تو دصول ہونے پر پھر تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔

لیکن اگر بیکشت وصول نہو بلکہ معمول ادھر وصول ہو تو جب مقدار
 نصاب کا پانچواں حصہ ^{عینہ} (۱/۵) یعنی بیس فیصد وصول ہو جائے تو صرف
 اس پانچویں حصہ کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گا۔ پھر جب اور پانچواں
 حصہ وصول ہو جائے تو اس پانچویں حصہ کی زکوٰۃ فرض ہو گی۔ اذ
 اسی طرح ہر پانچویں حصہ کی زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ یاد
 رہے کہ زکوٰۃ پورے سالوں کی مکالی جائے گی۔

اور اگر یہ پورا فرض بعد نصاب نہو تو اس پر زکوٰۃ فرض
 نہیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے پاس کچھ اور مال بھی ہے اور دو نوں ملا کر
 بقدر نصاب ہو جائیں تو زکوٰۃ فرض ہو گی (شامی جلد ۳ ص ۲۴۳)
 (۲) دوسری قسم یہ ہے کہ وہ قرض نہ نقدر دیپے کی صورت میں
 دیا گیا ہونہ سونا چاندی کی صورت میں، اور خرماں تجارت فروخت
 کیا ہو بلکہ کوئی اور چیز فروخت کی کمی جو تجارت کی نہ کمی، مثلًا
 پہنچنے کے کھڑے یا گھر کا سامان، یا کوئی زمین فروخت کی کمی اور اسکی
 قیمت باقی ہے۔ ایسے قرض کو اصدھارج میں دین متوسط کہتے ہیں
 تو یہ قیمت اگر بقدر نصاب ہے اور کئی سال کے بعد وصول ہوئی تو
 وصول ہونے پر ان تمام سالوں کی زکوٰۃ اس پر بھی فرض ہو گی، اور
 اگر بیکشت وصول نہو تو جب تک یہ قرض پورے مختار نصاب کی
 برابر وصول نہو جائے اُس وقت تک اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض
 عینہ ایسی ساڑھے دل تو لم چاندی کی قیمت کے برابر۔ ۲۳ منہ عینہ یعنی مقدار اضافی کا
 بیس فیصدی

نہیں ہوتا جب بقدر نصاب وصول ہو جلے کے تو وصول شدہ رقم پر
چھپلے تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔

(شامی و در ص ۳۵ و حصہ ج ۲)

مسئلہ اس دُسری قسم کا فرض اگر یکشت وصول نہوا بلکہ

مثلاً پہلی مرتبہ ۵ اروپے ملے تو اگر آپ کے پاس پہلے سے ایسا مال
بقدر نصاب موجود ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مثلاً ایک سو
پندرہ روپے پہلے ہے موجود ہیں تو یہ پندرہ روپے اُس موجود روپے
کے ساتھ لٹا کر حساب ہو گا۔ چنانچہ جب ان ایک سو پندرہ روپے کا
سال پورا ہو گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ فرض سے وصول ہونے والے
پندرہ روپے پر بھی پورا سال گزر گیا، لہذا پورے ایک سو تیس
روپے کی زکوٰۃ فرع ہو گی۔

(۳) تیسرا فرض یہ ہے کہ نقدر روپیہ فرض دیا نہ سونا چاندی
دی، اور نہ کوئی چیز فروخت کی بلکہ کسی اور سبب سے آپ کا فرض
دُسرے کے ذمہ ہو گیا۔ مثلاً عورت کا مہر شوہر کے ذمہ ہوا، یا شوہر کا
بدل خلع عورت کے ذمہ ہوا، یا دتیہ (خون بہا) کسی کے ذمہ ہو پا ملازم
کی تخلیہ آدا کرنا باقی ہو۔ ایسے فرض کو فقہاء دین ضعیف کہتے ہیں
اور اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس کا حساب وصول ہونے کے دن سے
ہو گا۔ چھپلے سالوں کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ چنانچہ وصول ہونے کے
بعد اگر اس پر ایک سال گزر گیا تو اس سال کی زکوٰۃ فرض ہو گی درست

نہیں۔ (شامی حج جلد ۲ ص ۵۳)

مسئلہ پر اوپرینٹ فنڈ تیری قسم میں داخل ہے۔ لہذا ملائمت چھوڑنے کے بعد جب اس فنڈ کا رد پیہ وصول ہوگا اُسی وقت سے اس روپیہ کے سال کی ابتداء ہوگی۔ اور چھپے سالوں کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔

اطلاع اس مسئلہ میں بعض علمار کا اختلاف ہے رہاسکو دین قوی یا متوسط قرار دے کر اس پر بھی گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم رہتے ہیں۔ اس لئے احتیاط کوئی ادا کرے تو افضل ہے۔ اس مسئلہ کی مختل تحقیق مع دلائل کے دیکھنا ہو تو ضمیمه امداد الفتاوی جلد دوم میں ملاحظہ فرمائیں۔

سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دیدگی تو اس کا حکم

۱۔ اگر کوئی مالدار کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے سال گذرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دیدے تو یہ جائز ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہوگئی۔ اور اگر وہ فی الحال مالدار نہیں بلکہ کہیں سے مال ملنے کی امید پر سال ملنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دیدی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ جب مال مل جائے اور اس پر سال گذر جائے تو دوبارہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔

(ہدایہ حج اول)

عہ ملنے کا پتہ ادارہ المعارف۔ اثرت منزل، منصب سبیلہ چوک کراچی۔

۱۔ مالدار شخص اگر کئی سال کی زکوٰۃ پیشگی دیدے تو یہ بھی جائز ہے
البتہ اگر کسی سال مال پڑھ گیا تو اس پڑھے ہوئے مال کی زکوٰۃ علیحدہ
دینا ہوگی۔ (در مختار و شامی)

۲۔ کسی کے پاس ایک سو بیس روپے ضرورت سے زائد
رکھے ہیں اور سوروپے مزید ملنے کی ہمید ہے۔ اس نے پورے
دوسرے بیس روپے کی زکوٰۃ دیدی تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن خشم
سال پر دیسی اگر نصاہب سے کم رہ گیا۔ مثلاً صرف سوروپے باقی رہ
رہ گئے تو زکوٰۃ معاف ہو گئی اور وہ دیا ہوا صدقہ نافذ ہو گیا۔ اسکا
ثواب ملے گا۔ (در مختار و شامی ج ادل)

سال پورا ہونے کے بعد مال ختم یا کم ہو جانے کا حکم

۳۔ کسی کے مال پورا سال گذر گیا لیکن ابھی زکوٰۃ نہیں دی
لختی کہ تمام مال چوری ہو گیا، یا کسی اور طریقے سے خود بخود ضائع ہو گیا
تو زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ لیکن اگر اپنا مال اپنے اختیار سے کسی کو
دے دیا یا کسی اور طرح اپنے اختیار سے ضائع کر دیا تو جس قدر
زکوٰۃ فرض ہوتی تھتی وہ معاف نہیں ہو گی بلکہ دینا پڑے گی۔
(ہدایۃ و در مختار ج ۲)

۴۔ سال پورا ہونے کے بعد کسی نے زکوٰۃ کی نیت کے بغیر اپنا
تمام مال خیرات کر دیا تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ معاف ہو گئی (ہدایۃ ج ۱)

۳۔ کسی کے پاس مثلاً چار سو روپے تھے ایک سال گذرنے کے بعد اس میں سے دو سو روپے چوری ہو گئے یا خیرات کر دیئے تو دوسو روپے کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ (در مختارج ادہ ایج ۲)

زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ اور اس کا حکم

۱۔ جب مال پر پورا سال گزر جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کر دینی چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اچانک موت آجائے اور یہ ذلیل سہ گردان پر رد جائے۔ اگر سال گذرنے پر زکوٰۃ نہیں دی، یہاں تک کہ دوسرا سال بھی گذر گیا تو یہ گناہ ہے، اس سے نوبہ کرنی چاہئے۔ اور دونوں سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہئے۔ خرض یہ کہ زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرنا اگرچہ گناہ ہے۔ لیکن یہ جب بھی دیکھائے گی ادا ہو گی قضا نہیں کہلاتے گی۔ (در مختارج ۲)

۲۔ جس قدر مال ہے اُس کا چالیسوال حصہ (بیہ) دینا ذہر ہے۔ یعنی ڈھانی فیصد مال ریا جائے گا۔ (در مختارج ۲)

۳۔ زکوٰۃ کی رقم دینے میں اختیار ہے کہ چاہے ایک ہی مستحق کو پری رقم دینے ہے، یا کسی غریب میں تقسیم کر دیں، نیز یہ بھی اختیار ہے کہ چاہے ایک دن میں پوری رقم دیں یا تھوڑا تھوڑا اکر کے کسی ہمینے میں دیں۔ (در مختارج ۲)

۴۔ بہتر یہ ہے کہ ایک غریب کو کم از کم اتنا دیں کہ اسی روز کے لئے

کافی ہو جلتے، اُس روز کے لئے اُس سے کسی اور سے مانگنا نہ پڑتے۔

(در مختار ج ۲)

۵۔ ایک ہی فقیر کو اتنا مال دیدیا کہ جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مکروہ ہے، لیکن اگر دے دیا تو زکوٰۃ آدا ہو گئی، اور اس سے کم دینا بغیر کراہ تر کے جائز ہے۔ (ہدایتہ ج ۱)

۶۔ کسی کے پاس چاندی کا انتاز پور ہے کہ حساب سے تین تو لہ چاندی زکوٰۃ کی ہوتی ہے تو اختیار ہے کہ زکوٰۃ میں چاہے تین تو لہ چاندی دیجیں یا تین تو لہ چاندی کی قیمت یا اس قیمت کا کوئی اور سامان دیدیں یہی حکم سونے کا ہے کہ اس کی زکوٰۃ چاہے خود سونے میں سے دیدیں یا قیمت کے برابر کوئی چیز دیدیں۔

۷۔ زکوٰۃ کے آدا ہونے کے لئے پر شرط ہے کہ جو رقم کسی مستحق زکوٰۃ ہے نیت زکوٰۃ دی جائے۔ وہ اس کی کسی خدمت دیغیرہ کے معادضہ میں نہ ہو۔

مسئلہ اسی لئے کسی مسجد کے امام۔ موزن۔ یا مدرسہ کے درس۔ ملازم کو جو رقم دی جائے اس کا ثواب تو بڑا ہے مگر وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ اس کی خدمت کے معادضہ میں ہے۔ ہال کوئی موزن، امام، مدرس یا اپنے گھر کا ذکر اگر غریب ہے اور تجوہ میں اسکی ضروریات پوری نہیں ہوئیں تو تجوہ کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم سے بھی اس کی امداد کی جاسکتی ہے۔ اس صورت میں جو کچھ اس کو بہ ثابت

زکوٰۃ دیا جائے گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی مستحق زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر دیدی جائے جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو۔ اس کے مالکانہ قبیغہ سے بخیر زکوٰۃ ادا نہ ہو گی۔

مسئلہ اسی لئے اگر زکوٰۃ کی نیت سے دس بیس ملکیتوں کو بٹھا کر کھانا کھلا دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہو گی کیونکہ اس کھانے کا ان کو مالک نہیں بنایا گیا۔

مسئلہ - مسجد - مدرسہ - خانقاہ - شفاخانہ - کنوال - پل یا اور کسی رفاهی ادارہ کی تعمیر میں رقم زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں اور اگر اس میں خرچ کردی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس میں بھی مستحق زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر نہیں دیا گیا۔

مسئلہ اسی طرح رقم زکوٰۃ سے کتابیں خرید کر کسی مدرسہ میں وقف کر دینا یا کوئی زمین خرید کر کسی رفاه عاملہ کے کام کے لئے وقف کر دینا بھی ادائیگی زکوٰۃ کے لئے کافی نہیں۔

مسئلہ - زکوٰۃ کی رقم سے مکانات بنانے کے لئے دیوبندی سے بھی زکوٰۃ ادا نہ ہو گی جب تک مکان کا ان کو مالک نہ بناریا جائے۔

مسئلہ - شفاخاؤں کی تعمیر اور اس کی ضروریات اور لازمیں کی تخلیخ ہوں میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاسکتی۔ البتہ دوائیں جو مستحقین

زکوٰۃ کو مُفت دیجائیں وہ زکوٰۃ میں لگ سکتی ہیں۔

مسئلہ۔ بعض حضرات زکوٰۃ اور صدقات داجہ کی رقم اس کام کے لئے جمع رکھتے ہیں کہ اس سے غریب مسلمانوں کو فرض حسن دیا جائے اور پھر وقت پر وصول کر لیا جائے۔ ایسا کرنے کا ثواب تو ضرور ہے مگر زکوٰۃ اس طرح آدا نہیں ہوتی جب تک مسحقوں کو ماں کا نہ طور پر نہ دیدی جائے۔

مسائل مذکورہ کی مزید تفصیل اور قرآن و سنت سے ان کا ثبوت، رسالہ قرآن میں نظام زکوٰۃ میں ملاحظہ فرمائیں۔

زکوٰۃ کی نیت

زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے نیت زکوٰۃ فرض ہے :-

۱۔ جس وقت زکوٰۃ کار و پیہ وغیرہ کسی غریب مسحق کو دیں اُس وقت دل میں یہ نیت غرور کر لیں کہ "میں زکوٰۃ آدا کرتا ہوں"۔ صرف دل سے نیت کر لینا کافی ہے زبان سے کہنا نہ ضروری ہے نہ بہتر۔ اور اگر دل میں نیت نہ کی تو زکوٰۃ آدا نہیں ہوگی۔ دوبارہ دیتا پڑے گی اور یہ جو روپیہ بغیر نیت کے دیا ہے اس کا ثواب نفلی صدقہ کا ہو گا
(در مختار ج ۲)

۲۔ اگر کسی مسحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیتے وقت نیت نہیں کی تو جیسا کہ وہ مال اُس غریب کے پاس موجود ہے اُس وقت تک بھی یہ نیت

کر لیا درست ہے۔ اب نیت کرنے سے بھی وہ زکوٰۃ آدا ہو جائے گی، البتہ فقیر کے پاس وہ مال خرچ ہو جانے کے بعد نیت کی تواں نیت کا اختبار نہیں۔ اب دوبارہ زکوٰۃ دینا پڑے گی (درختارج ۲) ۳۔ جس کو زکوٰۃ دی جائے اُسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ ”یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ بلکہ اس کا نجٹلانا ہی بعتر ہے۔“ (درختارج ۲)

۴۔ کسی نے زکوٰۃ کی نیت سے مثلاً دس روپے نکال کر الگ رکھ لئے کہ جب کوئی مستحق ملے گا تو دیدول گا۔ پھر مستحق کو دیتے وقت نیت کرنا بھول گیا تو زکوٰۃ آدا ہو گئی۔ البتہ اگر زکوٰۃ کی نیت سے نکال کر علیحدہ رکھتا تو آدا نہوتی۔ غرض یہ کہ زکوٰۃ کی نیت خواہ روپے نکال کر علیحدہ رکھتے وقت کر لے یا فقیر کو دیتے وقت کر لے۔ دونوں طرح صحیح ہے۔ لیکن اگر دونوں وقت نیت نہ کی تو زکوٰۃ آدا نہیں ہو گی۔

(ہدایہ ح اول)

۵۔ کسی نے قرض مانگا، اور معلوم ہے کہ وہ اتنا تنگ درست اور مفاسد ہے کہ کبھی ادا نہ کر سکے گا یا ایسا نادصد ہے کہ قرض لیکر کبھی آدا نہیں کرتا، اُس کو قرض کے نام سے زکوٰۃ کا رہنمای دیدیا۔ اور دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ آدا ہو گئی۔ اگرچہ لیئے والا یہی بھی ہے کہ مجھے قرض دیا ہے۔ (غالمگیری) ۱۷

۴۔ اگر کسی کو انعام کے نام سے کچھ دیا لیکن دل میں یہ نیت کر لی کہ زکوٰۃ دیتا ہوں تو زکوٰۃ آدا ہو گئی۔ اسی طرح کسی عنریب یا ان کے بھوپول کو عیدی یا تخفف کے طور پر زکوٰۃ کی رقم دے دی تو زکوٰۃ آدا ہو گئی اگرچہ وہ یہ سمجھ جیں کہ ہمیں تخفف دیا ہے اور عزیزوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا افضل و بہتر ہے تاکہ ان کو لینے میں شرمندگی نہ ہو۔^{۲۵}
 (در مختار و عالمگیری)

۷۔ کسی غریب آدمی پر آپ کے مثلاً دس روپے قرض ہیں، اور آپ کے مال کی زکوٰۃ بھی دس روپے یا اس سے زائد ہے، تو اگر آپ نے اپنا قرض اس کو زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دیا تو زکوٰۃ آدا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس کو دس روپے زکوٰۃ کی نیت سے دیا جائے تو زکوٰۃ آدا ہو گئی، آپ یہی روپے اپنے قرض میں اس سے لے لینا درست ہے۔^{۲۶}
 (در مختار ح ۲)

کسی اور شخص کے ذریعہ زکوٰۃ آدا کرنا

۱۔ آپ کسی دوسرے شخص یا ادارہ کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دیجئے وہ کمیل و مختار بناسکتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے مال زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے صحیح مصرف ہیں ختن کر دے لیکن اس میں دو باقیں پیش نظر ہیں چاہیں۔ اول تو یہ کہ اس وکیل پر یہ پورا اعتماد ہو کہ وہ اس رقم کو صرف شخصیں زکوٰۃ ہی پر صرف کرے گا۔ دوسری مادت خیرات میں ختن نکر لائے گا۔

دوسری یہ کہ جب تک آپ کا مال زکوٰۃ اس وکیل کے قبضہ میں رہے گا
وہ اپسہ ہی ہے جیسے آپ کے پاس رکھا ہے - زکوٰۃ اسی وقت
ادا ہو گی جب یہ شخص یا ادارہ مال زکوٰۃ کو مستحقین زکوٰۃ میں خرچ
کر دے - بہت سے ادارے زکوٰۃ کی رقم جمع کر لیتے ہیں - اور
سالہا سال رقم زکوٰۃ رکھی رہتی ہے - صرف نہیں ہوتی - یہ بڑی
بے احتیاطی ہے۔

۲- زکوٰۃ کا رسپیہ وغیرہ غریب کو اگر خود نہ دیا بلکہ کسی اور کو دیا
کہ تم کسی غریب کو ردید پینا تو آپ وہ شخص غریب کو
ردیتے وقت اگر زکوٰۃ کی نسبت نہ کرے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے ر
گی -
(عامل مکبری)

۳- اگر آپ نے روپے نہیں دئے لیکن اتنا کہہ دیا کہ تم ہماری
طرف سے زکوٰۃ دے دینا اب اس نے آپ کی طرف سے زکوٰۃ ردی
تو یہ ادا ہو گئی - اور جو رقم اس نے دی ہے وہ آپ کے ذمہ اسکا
فرض ہے -
(شامی ج ۲)

۴- اگر آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ کی اجازت
کے لیے کسی نے آپ کی مرن سے زکوٰۃ ردی تو زکوٰۃ ادا
نہ ہو گی - آب اگر آپ متغور بھی کر لیں تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہو گی
بلکہ یہ خود اس کی طرف سے نفعی صدقہ ہو گا - چنانچہ جو رقم اس نے
دی ہے وہ آپ سے دھول کرنے کا بھی اسے حق نہیں (شامی)

۵- آپ نے کسی شخص کو دور پہنچ دئے اور کہا کہ میری طرف سے یہ زکوٰۃ میں دیدینا۔ آپ اُسے اختیار ہے کہ چاہے خود کسی غریب کو دے یا کسی اور کے سپرد کر دے کہ تم یہ روپیہ زکوٰۃ میں دیدینا اور نام بتانا بھی ضروری نہیں کہ فلاں شخص کی طرف سے یہ زکوٰۃ دینا ہوں۔
(بہشتی زیور حصہ ص ۲۲)

۶- آپ نے کسی کو دور پہنچ دئے کہ میری طرف سے یہ زکوٰۃ میں دیدینا تو وہ شخص اگر وہ روپیہ اپنے کسی رشتہ دار یا ماں باپ کو غریب دیکھ کر دیے تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہ خود غریب ہے تو خود ہی لے لینا صحیح نہیں۔ البتہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہوگہ "جو چاہو کرو اور جسے چاہو دیرو" تو وہ خود بھی پہلے تودرست ہے بشرطیکہ خود مسحتی زکوٰۃ ہو (در محثارج ۲)

زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز ہے؟

۱- جس کے پاس سارٹھے باون توہ چاندی یا اتنی ہی قیمت کا مال تجارت ہوا س کو شرعاً مالدار کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اور ایسے شخص کو زکوٰۃ لمینا بھی حلال نہیں (عالمگیری)

۲- اسی طرح جس کے پاس اتنی ہی قیمت کا کوئی مال ہو جو مال تجارت تو نہیں لیکن ضرورت سے زائد ہے وہ بھی مالدار ہے ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں، اگرچہ خود اس قسم کے

مالدار پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔

(بہشتی زیور حصہ ۳ ص ۲۳)

۳۔ اور جس کے پاس اتنا مال نہ ہو، بلکہ اس سے کم ہو یا بالکل نہ ہو اس کو ”فقیر“ کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے اور ان لوگوں کو لیتا بھی جائز ہے (در مختار ج ۲)

۴۔ بڑی بڑی دلگیں، بڑی دریاں، شامیاں نے، جنکی بھی برسوں میں تحریفات کے موقحوں پر ضرورت پڑتی ہے اور روزمرہ ضرورت نہیں ہوتی، یہ سامان ضرورت سے زائد کھلائے گا چنانچہ جس کے پاس ایسا مال بقدرِ تصاب ہو اُسے بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ (شامی ج ۲)

۵۔ رہائش کا مکان، پہنچ کے کپڑے اور خدمت گارمایازم، اور گھر کا وہ سامان جو اکثر استعمال میں رہتا ہے۔ یہ سب ضروری سامان میں داخل ہیں چنانچہ اس سامان کے ہونے سے کوئی شخص مالدار نہیں کھلائے گا، خواہ یہ مال کتنا ہی زیادہ قیمتی ہو، اس لئے اس کو زکوٰۃ دینا بھی صحیح ہے۔ اسی طرح پڑتے لکھے آرمی کے پاس اس کے مطالعہ میں آئنے والی کتابیں بھی ضروری سامان میں داخل ہیں کاریگروں کے اوزار بھی ضروری سامان“ میں داخل ہیں۔ خواہ دہ کتنی ہی قیمت کے ہوں جب اس کے پاس اوزار کے علاوہ سارے حصے باوان تو لہ چاندی کے برابر مال موجود نہ ہو تو وہ سخت زکوٰۃ ہے۔ (شامی ج ۳)

۶۔ کسی کے پاس چند مکان ہیں جو کرایہ پر چلتے ہیں یا کوئی اور آمدی ہے، لیکن اہل دعیال اور بچے اتنے زیادہ ہیں کہ اچھی طرح گذر نہیں ہوتی، اور اس کے پاس کوئی ایسا مال بھی نہیں جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ (شامی رج ۲)

۷۔ کسی کے پاس ایک ہزار روپے نقد موجود ہیں، لیکن وہ ایک ہزار یا اس سے زائد کا قرضدار بھی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور اگر قرض ایک ہزار سے کم ہو تو دیکھیں کہ قرض ادا کر کے کتنے روپے بچتے ہیں۔ اگر بقدرِ نصاب بچتے ہوں تو اس سے زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ اور اگر کم بچتے ہیں تو دینا درست ہے۔ (عالیگیری)

۸۔ ایک شخص بہت مالدار ہے، لیکن کہیں سفر میں اتفاق سے اُس کے پاس سفر کے لئے کچھ نہیں بچا۔ تام مال چوری ہو گیا یا اور کسی وجہ سے ختم ہو گیا یہاں تک کہ کھرپہنچے کے لئے بھی سفر خرچ نہیں رہا تو ایسے شخص کو اس ہمامت میں زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اگر پہاڑ کے کھر میں کتنا ہی مال و دولت موجود ہو۔ اسی طرح اگر حاجی کے پاس راستہ میں خرچ کے لئے کچھ نہ رہا تو اسے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگرچہ اُس کے کھر میں خوب مال و دولت موجود ہو۔ (عالیگیری)

عہ لیکن ایسے شخص کے لئے صرف بقدر ضرورت زکوٰۃ دینا جائز ہے ہر وقت میں زائد دینا حلال نہیں۔ ۲۳ (عالیگیری)

- ۹۔ ناپالنح بچوں کا باپ اگر مال دار ہو تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں
دے سکتے۔ لیکن اگر بچے بالغ ہو گئے اور خود وہ مالدار نہیں بلکن
ان کا باپ مالدار ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے (اعالمگیری)
- ۱۰۔ اگر ناپالنح بچوں کا باپ تو مالدار نہیں بلکن ماں مالدار ہے
تو ان بچوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔

(در مختار ج ۲)

۱۱۔ ہبتوہ ماشتم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور ہبتوہ ماشتم وہ لوگ
ہیں جو سیدر یعنی حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہوں باعلوی
ہوں، یا حضرت عباس رض، یا حضرت جعفر رض یا حضرت عصیں یا
حضرت حارث ابن عبد المطلب کی اولاد میں ہوں۔

(ہدایہ ح اول)

اسی طرح جو بھی صدقہ واجب ہو وہ ان کو نہیں دیا جاسکتا،
مثلاً نذر، کفارہ، عشر، صدقہ کو فطر ان کو نہیں دے سکتے، البتہ
نفلی صدقات و خیرات ان لوگوں کو دے سکتے ہیں۔

(در مختار و شامی)

۱۲۔ زکوٰۃ کسی کافر کو دینا درست نہیں۔ صرف مسلمان کو اسی
دی جاسکتی ہے۔ عشر، صدقہ فطر، نذر اور کفارہ کا بھی یہی حکم
ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے صدقات کافر کو بھی دے سکتے
ہیں۔ (بہشتی زلیور)

مساجد، اسلامی مدارس، انجمنوں، اور جماعتوں کو زکوٰۃ دینے کے احکام

ان مسائل کا بیان پہلے بھی زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے میں آچکا ہے۔ مگر عام غرورت کے پیش نظر اس جگہ پھر تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔

۱۔ زکوٰۃ اُس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک کسی مسجد کو اس کا مالک نہ بنادیا جائے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے روپے سے مسجد بنوانا، یا کسی لا ادارث مردہ کے کفن رفن کا انتظام کر دینا۔ یا مردے کی طرف سے اُس کا قرض ادا کروینا، درست نہیں کیونکہ پہاں کسی کو مالک بنانا نہیں پایا گیا۔ (در المختار ج ۲)

۲۔ زکوٰۃ کا روپیہ کسی ایسے مدرسہ یا انجمن میں دینا کہ جہاں وہ غریبوں پر خرچ نہ کیا جاتا ہو بلکہ ملازمین کی تحریک ہوں یا تعمیر و غیرہ میں خرچ کر دیا جاتا ہو جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی ادارہ میں غریب طلباء یا دوسرا سکینوں کو کھانا وغیرہ مُفت دیا جاتا ہے تو ایسے مدرسہ یا انجمن وغیرہ میں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن یہ زکوٰۃ اُس وقت ادا ہوگی جب وہ روپیہ نقد یا اُس روپے کے بدلہ میں کھانا وغیرہ غریبوں کو دے دیا جائے۔ یا کوئی اور چیز مثلاً پرٹے یا لمحاف

وغیرہ مالکانہ طور پر اُن کو دیجئے جائیں۔ (امانی عامتہ المتن)

۳۔ کسی نے زکوٰۃ کے طور پر کچھ کپڑے یا کتابیں وغیرہ مدرسہ میں دیں تو اگر پر کپڑے یا کتابیں طلباء کو مالکانہ طریقے پر دیدی گئیں کہ آن سے واپس نہ لی جائیں تو زکوٰۃ آدا ہو گئی ورنہ نہیں۔

۴۔ آ جمل عربی مدارس میں کتابیں عموماً مالکانہ طریقہ پر طلباء کو نہیں دی جاتیں بلکہ عارضی طور پر صرف پڑھنے کے لئے دی جاتی ہیں، سال کے اختتام پر واپس لے لی جاتی ہیں، الیسی کتابیں بھی زکوٰۃ کی رقم سے خریدنا جائز نہیں۔ اسی طرح ایسے کپڑے، کمبل، لحاف وغیرہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے خریدنا جائز نہیں جو طلباء کو مالکانہ طور پر نہیں دیے جائے بلکہ واپس لے لئے جاتے ہیں۔ البتہ اگر یہ کیا جائے کہ زکوٰۃ نکالنے والا شخص یہ کتابیں پاکبھل وغیرہ کسی مستحق زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر دیدے کے وہ جو چاہے کرے۔ پھر وہ شخص اپنی طرف سے بخوبی مدرسہ میں داخل کر دے تو زکوٰۃ آدا ہو جائے گی۔ چاہے اب وہ کتابیں وغیرہ طلباء کو مالکانہ طور پر نہ دی جائیں بھر بھی آدا ہو جائے گی۔

اس صورت میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے کو تو زکوٰۃ نکالنے کا چورا تواب ملے گا ہی، ساقی ہی اس غریب کو بھی صدقہ نافلہ کا تواب ہو گا جس نے یہ کتابیں کمبل وغیرہ لے کر مدرسہ میں دیے ہیں۔

۵۔ غریب طلباء کو توزیع کوہ سے تعلیم کے لئے وظائف دئے جا سکے ہیں۔

۶۔ غریب طلباء کے لئے اسلامی مدارس میں زکوہ دینے بیش دو گنا ثواب ہے، ایک ثواب توزیع کا اور دوسرا ثواب اسلامی تعلیم کی اعانت کا۔ لیکن زکوہ ایسے مدرسہ میں دینی چالہیجیں کے مشتملین پر یہ پورا حستہ مادہ ہو کہ وہ زکوہ کی قسم کو خاص زکوہ ہی کے صحیح مصرف میں یعنی غریب طلباء کی خواراک پوشاک وغیرہ میں اس طرح خرچ کریں گے کہ طلباء اس کے مالک فاردیتے جائیں۔

شفا خانہ کی تعمیر اور دیگر ضروریات اور ملازمین کی تحریکوں میں بھی زکوہ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی البتہ جودا میں غریبوں کو مُفت دی جائیں وہ زکوہ میں شمار ہوں گی۔

ثہر سیمہ

مساجد۔ مدارس اسلامیہ اور غریبوں کے لئے شفاخانے وغیرہ بنا نا مسلمانوں کے لئے بڑے ضروری اور اہم کام ہیں انہیں خرچ کرنے کا اجر و ثواب بھی عظیم ہے مگر شریعت اسلام میں ان کے لئے بہت المال کے دوسرے مرات مقرر ہیں جن سے ان کا مول میں خرچ ہونا چاہیئے۔ ابھکل اسلامی بہت المال فائم نہونے کے سبب مشکلات درپیش ہیں اس مجبوری کے باعث مسلمانوں کو زکوہ کے علاوہ

ان کا مول کے نئے مستقل چندہ کرنا ضروری ہو گیا۔ زکوٰۃ کی رقم بہر حال ان کا مول پر خرچ کرنا درست نہیں۔ بہت مجبوری کی حالت میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کسی بیسے غیر ممکن زکوٰۃ قبضہ زکوٰۃ کا باعده مالک بنادیا جائے جو ان کا مول میں خرچ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ لگر ناذاری کے سبب عمل سے مجبور ہے۔ یہ شخص اپنے مالکانہ قبضہ میں لینے کے بعد اپنی رضا و رغبت سے یہ رتشم کسی مسجد مدرسہ یا ادارے کو دیدے تو اس کی طرف سے یہ چندہ ہو گا۔ جو اداروں کے ہر کام پر خرچ ہو سکے گا۔ لیکن یاد رہے کہ حیلهٗ تملیک کے نام سے جو کھیل عام طور پر کھیلا جاتا ہے اس سے زکوٰۃ آدا نہیں ہوتی۔ کیونکہ عموماً جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے اس مال کا کوئی اختیار نہیں، محسن زبانی جمع خرچ کرنا ہے۔ ایسی صورت میں نہ وہ مالک ہوتا ہے نہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ آدا ہوتی ہے۔ اس حیله سے رتشم زکوٰۃ کو مساجد و مدارس و شیروں کی تعمیری ضروریات پر لگانا جائز نہیں ہوتا۔

ذکورہ مسائل کی تحقیق و تفصیل عربی کتب فقہ کے علاوہ رسائلہ "فتح رمان" میں نظم اسم زکوٰۃ میں ملاحظہ فرمائیں۔

رشته داروں اور متعلقین کو زکوٰۃ دینا

۱۔ اپنی زکوٰۃ کا روپیرہ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی پر دادا۔ وغیرہ کہ جن کی اولاد سے یہ خود ہے دینا درست نہیں۔ اسی طرح اپنی اولاد، پوتے پوتی، نواسے نواسی، وغیرہ کہ جو اس کی اولاد میں داخل ہیں ان کو دینے سے بھی زکوٰۃ آدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دُسرے کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
(ہدایج اول)

۲۔ مذکورہ رشته داروں کے سوا اور سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مثلاً بھائی، بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانچا، بھانجی، چچا، پھوپی، خالہ، ناموں، سوتیلی ماں، سوتیلہ باپ، سوتیلہ دادا، سوتیلی دادی، خسر ساس وغیرہ سب کو دینا جائز ہے لشروعہ مسحوق زکوٰۃ ہوں۔
(رشامی ح ۳)

۳۔ زکوٰۃ اور دُسرے صدقات و خیرات دینے میں سب کے زیادہ اپنے رشته داروں کا خیال رکھنا چاہیے اگر یہ غریب ہوں تو پہلے ان کو ہی دینا چاہیے۔ لیکن ان سے یہ نہ کہیں کہ یہ صدقہ چاند کوٰۃ کی چیز ہے۔ تاکہ انہیں شرمندگی نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ قرابت والوں کو خیرات و زکوٰۃ دینے سے دو گناہ ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب تُ خیرات کا، اور دُسرے اپنے عزیزوں کے

ساتھ ہُن سلوک و احسان کا انہیں دینے کے بعد جو
کچھ بچے وہ اور لوگوں کو دیں۔ (عالمگیری)

۶۔ رضاعی بیٹا، بیٹی، اور رضاعی ماں باپ کو بھی زکوٰۃ
دینا جائز ہے۔ (شامی جلد ۲)

۵۔ گھر یادوگان وغیرہ کے ملازمین، دھوپی، ڈرائیور، دایا،
آیا وغیرہ اگر غریب ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن
یہاں کی ت hawkah میں نہ لگائیں۔ بلکہ ت hawkah اور مزدوری سے زائد
بطور انعام کے دین، اور دل میں زکوٰۃ دینے کی نیت کر لیں تو
درست ہے۔ ورنہ نہیں۔ (عالمگیری)

۶۔ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں بھیجنا کروہ ہے۔
لیکن اگر دوسرے شہر میں اُس کے رشتہ دار سختق زکوٰۃ رہتے
ہوں، یا یہاں کی ہلکتی دہانی کے لوگ زیادہ ضرورت مند
ہوں، تو ان کو بھیج دینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے شہر
کے لوگ دین کے کام میں لگے ہیں مثلًا زینی مارس کے طلباء
یا دین دار علماء دین، یا ہجاءہ بیٹر اسلام ہوں اور وہ سختق زکوٰۃ

عہ کوئی عورت اگر کسی دوسرے کے بھوں کو دو دھن پلاسے تو یہ بچے
اس عورت کے رضاعی بیٹا یا بیٹی کہلاتے ہیں اور وہ عورت اور اس کا
شوہر ان بچوں کے رضاعی ماں باپ کہلاتے ہیں۔ ۳۴۷

بھی ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ بھجی جا سکتی ہے۔ بلکہ زیادہ ثواب
ہے۔
(عاملیگیری)

زکوٰۃ دینے میں غلطی ہو جائے تو اس کا حکم

۱۔ اگر کسی کو غریب و مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دیدی، پھر معلوم ہوا
کہ وہ تو ذمی کافر ہے یا مال دار ہے، یا سید ہے، یا تاریک
رات میں کسی کو دیدی۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ اس کی ماں، باپ یا
کوئی ایسا رشته دار ہے جس کو زکوٰۃ دینا اس کے لئے درست
نہیں نہ ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ دوبارہ دینا واجب
نہیں۔ لیکن لینے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ زکوٰۃ کا روپیہ ہے
اور میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوں تو اُسے نہ لینا چاہیے۔ اور
واپس کر دینا چاہیے۔
(درختار مع شامی)

۲۔ اگر زکوٰۃ دینے کے بعد معلوم ہوا کہ جس کو دی ہے وہ غیر
ذمی کافر ہے۔ تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ پھر ادا کریں۔
(درختار وہداتیہ)

۳۔ اگر کسی کے بارے میں شک ہو کہ معلوم نہیں مالدار ہے یا نہیں

سختے ذمی وہ کافر ہے جو دارالاسلام کے شہری حقوق رکھتا ہو۔ اور غیر ذمی وہ کافر
ہے جو دارالاسلام کے شہری حقوق نہ رکھتا ہو۔ ۱۴۷

تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے اُس وقت تک اُس کو زکوٰۃ نہ دیں۔ لیکن اگر بغیر تحقیق کئے اُس سے دید کی تو اُب اندازہ کریں، اگر غالب گمان یہ ہو کہ غریب ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ مال دار ہے تو ادا نہیں ہوئی دوبارہ زکوٰۃ دیں۔

(شامی ج ۲)

مسروقات

۱۔ کسی عورت کا مہر نصایب زکوٰۃ کی برابریا زاہد ہے۔ اور یہ اُمید ہے کہ جب وہ طلب کرے گی شوہر بلا تامل دیے گا تو ایسی عورت کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ لیکن اگر اس کا شوہر اتنا غریب ہے کہ وہ رادا نہیں کر سکتا، یا مالدار تو ہے لیکن نہیں دیتا، تو ایسی عورت کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر اس نے وہ معاف کر دیا ہو تو پھر بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔

(در حختارج ۲)

تہذیب

عام طور سے لوگ صرف اُسی کو فقیر سمجھتے ہیں جو بھیک مانگتا ہو، حالانکہ بعض اوقات مانعِت لوگ زیادہ سحق ہوتے ہیں۔

حالم

ک لگر شرم کی وجہ سے اپنی غربت نہ اپنے لباس سے ظاہر ہونے رہتے ہیں تاہم زبان سے کہتے ہیں۔ دیکھنے سے بظاہر وہ غریب معلوم نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات خواہ دار ملازم بھی ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ عیال ہونے کی وجہ سے بہت تنگ درست رہتے ہیں۔ اگر حقیق سے کسی ایسے شخص کا علم ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ و خیرات دینا زیادہ باعث ثواب ہے۔ کیونکہ پھر کانگے والا تو کہیں اور سے بھی مانگ لے گا۔ لیکن یہ غریب شرم و خودداری کی وجہ سے کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔

۴۴

زہین کی پیداوار پر زکوٰۃ (عشر) کا بیان

عُشر اور عُشری زہین کی تعریف

جوزہ زہین مسلمانوں نے کفار سے جنگ کر کے فتح کی ہوا وہ فتح کر کے مسلمانوں کے امیر نے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی ہو وہ زہین "عشری" کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ کے کافر پاشندے خود بخوبی بغیر جنگ کے مشرف باسلام ہو گئے ہوں تو ان کی زہین بھی عُشری کہلاتی ہے۔

لیکن اگر وہ زہین جنگ کر کے فتح نہیں کی گئی بلکہ بغیر جنگ کے صرف صلح سے فتح ہو گئی۔ اور زہین ان کے کافر

مالکوں ہی کے قبضہ میں چھوڑ دی گئی تو وہ زمین عشیری نہیں۔ اسی طرح اگر وہ زمین جنگ کر کے فتح تو کی ہے، لیکن مسلمانوں میں تقسیم نہیں کی گئی بلکہ وہیں کے کافر باشندوں کی ملکیت میں رہنے والی تو وہ زمین بھی عشیری نہیں۔

(ابداۃ صفت حج ۲)

مسئلہ۔ اگر کسی سے آباداً جدار سے عشیری زمین پشت در پشت چلی آتی ہو۔ یا کسی اپسے مسلمان سے اُس نے خریدی ہو جس کے پاس اُس کے آباداً جدار سے عشیری زمین اسی طرح چلی آتی ہو تو ایسی زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے۔ (شامی ص ۲۷)

مسئلہ۔ پاکستان میں جو ہندوؤں کی متروکہ زمینیں ہائی جریب کو ان کے کلیم کے معاوضہ میں ملی ہیں یا کسی ہا جر کو یا کسی ادارہ کو حکومت پاکستان نے بلا معاوضہ ہی دیدی ہیں۔ پہ سب از مینیں عشیری ہیں۔ اگر پارانی ہوں تو دسوال حصہ اور نہری یا چاہی ہوں تو بیسوال حصہ پیداوار کا صدقہ کرنا واجب ہے۔

مسئلہ۔ اگر عشیری زمین کوئی کافر خرید لے تو وہ عشیری نہیں رہتی۔ پھر اُس سے اگر مسلمان خرید لے یا کسی اور طلاق پر سے مسلمان کو مل جائے تب بھی وہ عشیری نہ ہو گی۔ لہذا اس پر عشیر بھی واجب نہ ہو گا۔ (ادریختار حج ۲)

زکوٰۃ اور عُشر فرض

زکوٰۃ اور عُشر کے احکام میں جچہ اعتبار سے فرق ہے۔

(۱) عُشر واجب ہونے میں کسی نصاب کی شرط نہیں چنانچہ پیداوار کم ہڈیا زیادہ بھر حال اُس پر عُشر فرض ہو گا۔ البتہ اگر پیداوار پوئے دو سیر (نصف صاع) سے بھی کم ہو تو عُشر فرض نہیں۔ (درختار و شامی ج ۲)

(۲) عُشر میں پیداوار پر ایک سال گذرانے کی بھی شرط نہیں، چنانچہ اگر کسی زمین میں سال میں دو مرتبہ فصل ہوتی ہے۔ یا کسی درخت پر سال میں دو مرتبہ بچل آتا ہے تو ہر مرتبہ کی پیداوار میں عُشر فرض ہو گا۔

(درختار و شامی ج ۲)

(۳) عُشر فرض ہونے میں عاقل ہونے کی بھی شرط نہیں لہذا مجنون کے مال پر بھی عُشر فرض ہوتا ہے۔

(درختار و شامی ج ۲)

(۴) اس میں بالغ ہونے کی بھی شرط نہیں۔ چنانچہ نابالغ کے مال پر بھی عُشر فرض ہے۔ (درختار و شامی ج ۲)

(۵) عُشر کے لئے آزاد ہونا بھی شرط نہیں۔ چنانچہ ملام کے مال پر بھی عُشر فرض ہوتا ہے۔ (درختار و شامی ج ۲)

(۴) زمین کا مالک ہونا بھی شرط نہیں، چنانچہ اگر و فقط
زمین میں اہل و قوت کا شت کریں تو اس پیداوار پر بھی عشر
فرض ہو گا۔ اسی طرح اگر زمین کرایہ پر لے کر اُس میں کاشت
کریں تو اس پیداوار پر بھی عشر فرض ہو گا۔
(ہذا کلمہ من رد المحتار ص ۲۵)

کس قسم کی پیداوار پر عشر ہے اور کتنی؟

۱۔ زکوٰۃ عشر صرف عشری زمینوں پر واجب ہے۔ دُسری
قسم کی زمینیں جن کو حسراجی کہا جاتا ہے، ان پر عشر واجب
نہیں، بلکہ ان کا خراج وصول کرنا حکومت کا کام ہے (ہدایت)
۲۔ خراجی زمینوں کی سرکاری مالگزاری جو حکومت وصول
کرتی ہے اس سے خراج ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن عشری زمینوں
کی سرکاری مالگزاری ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ
حکومت نہ اس کو عشر کہہ کر وصول کرتی ہے نہ عشر کے مخصوص
懋ارف میں صرف کرنے کا وعدہ کرتی ہے، اس نے مسلمانوں
کو عشری زمینوں کا عشر سرکاری مالگزاری کے علاوہ ادا کرنا
اور مصارف زکوٰۃ پر صرف کرنا ضروری ہے۔

۳۔ جو زمینیں بارانی ہیں یعنی صرف بارش کے پانی سے انہیں
پیداوار ہوتی ہے نہ ریا کنوں دغیرہ سے آب پاشی نہیں کیجا تی

اُن کی پیداوار کا عشر لعینی دسوال حصہ اس کی زکوٰۃ ہے جس کا
حدائق کرنا وہ بُت ہے۔ طرح ایسی زمینیں جنکی کچھی کسی ندی نالی کے
کنارہ پر مبنی ہیں یعنی پانی سے خود بخود زمین کے
پانی زمین بین کر دیں زمین کا دہی حکم ہے جو بارانی زمینوں
کا لعینی پیداوار کا دسوال حصہ ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔

(ہدایت)

۴۔ اور نہری یا چاہی زمینیں جو سرکاری نہر کے پانی سے
یا کنوں کے پانی سے سیراب کی جاتی ہیں۔ ان میں پیداوار
کا بیسوال حصہ ان کی زکوٰۃ ہے جو حقیقت میں تو نصف عشر
ہے، مگر اصطلاحاً اس کو بھی عشر کہا جاتا ہے (ہدایت)

۵۔ باغات کے احکام بھی اس معاملہ میں وہی ہیں جو زرعی
زمینوں کے اور سبلائے گئے ہیں کہ بارانی زمین کے باغ کی پیداوار
میں دسوال حصہ اور نہری یا چاہی باغ کی پیداوار میں بیسوال
حصہ زکوٰۃ عشر کا واجب ہے۔ (عالمگیری)

۶۔ گنا۔ پھل۔ ترکاری۔ انج۔ پھول وغیرہ جو کچھ پیدا ہو
سب کا یہی حکم ہے۔ (عالمگیری)

۷۔ جوز میں کسی کو ٹھیکہ یا مقاطعہ پر معینہ رقم کے محاوضہ
میں دی گئی ہو اس کی پیداوار کا عشر ٹھیکہ دار کے ذمہ ہے۔

مالک از زمین کے ذمہ نہیں - اور جو بٹائی پر دی جائے
اس کا عشر مالک زمین اور اُس کا شتر کا روپوں پر اپنے
حصہ پیداوار کے مطابق ہے -

(از بہشتی زیور حکیم الامتہ نھاؤی رج)

۸ - عشري زمین یا پہاڑ یا جنگل سے اگر شہد نکالا تو اس میں
بھی عشر (رسوی حصہ) دینا فرض ہے -
(در محثا رج ۲)

۹ - کسی نے اپنے گھر میں کوئی درخت یا ترکاری وغیرہ پولی
اور اس میں بچل وغیرہ آیا تو اس میں عشر فرض نہیں -
(عامل سیگری)

۱۰ - جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہئے انہی کو عشر دینا بھی
جاہز ہے - اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی انہیں عشر بھی
نہیں دے سکتے -
(در و شامی رج ۲)

۱۱ - زکوٰۃ کی طرح عشر میں بھی اختیار ہے کہ چاہے بعضی اُسی
پیداوار میں سے یہ صدقہ نکال دیں اور چاہے اس صدقہ کی قیمت
ادامہ کر دیں مثلاً کسی کی عشري زمین میں دس من گندم پیدا ہوا تو
اُسے اختیار ہے کہ چاہے اس میں سے ایک من گندم دیدے
یا ایک من گندم کی قیمت دیدے

بندکا - محمد رفیع عثمانی مدرس دارالعلوم کراچی ۱۴۸۳ھ شعبان ۱۴۸۴ھ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

از مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ناظمہ

حصہ اول ستر بیجی مضا میں متفرقہ کا بہرین علمی کشکوں ہے جس میں سینکڑوں بزرگان سلف کے حالات و مقامات و کلام حکمت درج ہیں اور جو ہر رذاق و مزاج کے انساؤں کے لئے نہایت و لچیپ مفید ترین معلومات کی خزانہ اور تہذیبی میں دل بہلانے کا بہرین ذریعہ ہے یہ ان نادر و نایاب مضامین کا جمع جو سینکڑوں کتب کے ہزار ہا صفحات کے مطالعہ کے بعد سمجھ کئے ہیں۔

نظم جسیں حضرت مفتی صاحب ناظمہ العالی کا اردو فارسی کلام حصہ دوم ہم جو مختلف اصناف سمجھن۔ نعت۔ نظم۔ غزل۔ رباعی۔ مسدد اور مراتی دیگرہ پر مشتمل ہے۔ مختلف عنوانات کے تحت درج کیا گیا ہے آخر میں مختلف شہراں کے بنتخوب متفرق اشعار دئے گئے ہیں بغرض اردو زبان میں یہ کتاب اپنے طرز کی واحد کتاب ہے جو ہر اشان کے لئے تفریق طبع اور معلومات کے لئے لا جواب اور قابل مطالعہ ہے۔ صفحات ۴۰۰ سائز ۲۶۸ × ۳۰۰ کتابت طباعت عدہ مجلدست گردپوش قیمت ۱۵۰

ادارہ المعارف سپلیم چوک کراچی ۵

قرآن میں نظم اسلام زکوٰۃ

از

معرف القرآن

محسن فہد

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مدظلہ

جس میں

زکوٰۃ کی حقیقت، تاریخ، اہمیت و فرغیت، موال، زکوٰۃ، نصاب، کوٰۃ،
 مقدار زکوٰۃ، نظاہر زکوٰۃ، مضارع زکوٰۃ، عالمین صرفہ مولفۃ القلوب
 اور فی سعیل اللہ کی بحث - تلمییک سماں کی شرط جن کامیل میں رکوٰۃ نہیں
 صرف ہو سکتی ان کا بیان

اور اس کے بعد عام مسائل زکوٰۃ۔ از تالیف مولانا محمد رفیع صافی (رج ہی)

ناشر

ادارہ المعرف پیغمبر کی سیپاہیم - کراچی ۱۹۷۵